

July 1st, 2024

The Executive Director
Public Offering and Regulated Persons Department
Securities & Exchange Commission Pakistan
NIC Building, Jinnah Avenue
Islamabad

Subject:

Final Report - Public Offer to acquire up to 277,070,908 ordinary shares (constituting about 23.20% the

total issued and paid-up share capital) and joint control of Unity Foods Limited

Dear Sir,

We, Arif Habib Limited, in our capacity as the "Manager to the Offer", on behalf of;

i. Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd.;

ii. Unity Wilmar Agro (Private) Limited;

iii. Mr. Muhammad Farrukh; and

iv. Ms. Fehmida Amin,

(collectively, the "Acquirers")

are pleased to present this final report following the conclusion of the public offer on [28 June 2024]¹ in respect of the acquisition of up to 277,070,908 ordinary shares (representing about 23.20% of the total issued and paid-up share capital) and joint control of Unity Foods Limited (the "Target Company") at PKR 27.34/- per share (the "Public Offer").

We had earlier confirmed vide our letter dated June 28, 2024 that the Acquirers had fulfilled all their obligations under the Securities Act 2015 (the "Act") and the Listed Companies (Substantial Acquisition of Voting Shares and Takeovers) Regulations, 2017 (the "Regulations") (collectively referred to as "Takeover Laws").

Public Announcement of Intention

On March 19, 2024, the Acquirers submitted the notice for the Public Announcement of Intention (the "PAI") to acquire up to 277,070,908 ordinary shares (representing about 23.20% of the total issued and paid-up share capital) and joint control of the Target Company to the Securities and Exchange Commission of Pakistan (the "Commission"), the Pakistan Stock Exchange Limited (the "Exchange") and the Target Company through the Manager to the Offer under regulation 6 of the Regulations and section 114 of the Act. The PAI was published in Business Recorder (English) and Nawa-i-Waqt (Urdu) on March 20, 2024. The PAI provides the manner in which all the shares in the Public Offer comprising up to 277,070,908 ordinary shares of the Target Company shall be fully subscribed by the Acquirers.

Public Announcement of Offer

Determination of Offer Price

The Manager to the Offer undertook a valuation exercise to determine the offer price (the "Offer Price") in accordance with regulation 13 of the Regulations.

Page 1 of 4

¹ The date when all selling shareholders are paid.



According to regulation 2(1)(ca) of the Regulations, shares are deemed to be 'frequently traded shares' if they are traded for at least 80% of the trading days during 180 days prior to the date of Public Announcement of Public Offer ("PAO") and if their average daily traded volume ("ADTV") is not less than 0.5% of its free float or 100,000 shares, whichever is higher. The shares of the Target Company were frequently traded based on percentage of trading days, having traded for 100% of the market trading days and based on its ADTV of 6,844,397 shares, which is greater than 100,000 shares (higher of 100,000 and 6,844,397 i.e. 1.81% of the Target Company's free float of 378,646,704).

m 15 17 1	
Trading Volume	6.044.207
Average Daily Traded Volume (October 27, 2023 – April 24,2024) *	6,844,397
Free Float**	378,646,704
0.5% of Free Float	1,893,234
Trading Days	
Trading Days for Target Company (October 27, 2023 – April 24,2024) *	121 days
Trading Days in Market (October 27, 2023 - April 24,2024)	121 days
% Traded	100%

^{*} Source: PSX Data Portal

The criteria for determining the price of shares to be offered to the public in case of frequently traded shares is the highest amongst prices stated under regulation 13 of the Regulations. These prices are:

Criteria	Price (PKR)
The highest price paid by the Acquirers for acquiring the voting shares of the Target Company during the 180 days preceding the date of the PAO	27.34
The weighted average share price of the Target Company on the securities exchange during the 180 days preceding the date of the PAO	24.89
The weighted average share price of the Target Company on the securities exchange during 28 trading days preceding the date of the PAI and only those days shall be taken into account on which the shares of the Target Company have been traded	23.09

Based on the above, the Public Offer was made at an Offer Price of <u>PKR 27.34/-</u> per share, the highest among the prices based on the aforementioned criteria.

Opening a CDS Account

For the purposes of the Public Offer, a CDS Account titled "Manager to the Offer (Unity Foods Limited)" was opened. All shareholders who wished to tender their electronic shares in the Public Offer had to transfer their shares into this account, from which the shares were later reversed to the shareholders' respective accounts (in the case shares are tendered in excess of the offer) and transferred to the Acquirers.

Provision of Security

Pursuant to regulation 15 of the Regulations and section 123 of the Act, Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd. (for and on behalf of the Acquirers) provided security in the form of the following Bank Guarantees:

	The state of the s
Date of Issuance	Guarantee Amount
	Date of Issuance

^{**} Source: Unity Foods Limited website free float report



Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited	April 17, 2024	PKR 6,896,294,900
Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited	April 25, 2024	PKR 678,823,725

The Bank Guarantees totaled to PKR 7,575,118,625 /- against the offer size of PKR 7,575,118,625/-, calculated using the offer size of 277,070,908 shares at PKR 27.34/- per share.

Based on the above, a due diligence certificate was issued by the Manager to the Offer on April 17, 2024 and the PAO in conjunction with the Corrigendum to the Public Announcement of Public Offer ("Corrigendum") was submitted to the Commission, the Exchange and the Target Company on April 17, 2024 and April 25, 2024 in accordance with regulation 7(2) of the Regulations. The same PAO and Corrigendum was published in The Business Recorder (English) and Nawa-i-Waqt (Urdu) newspapers on April 19, 2024 and April 27, 2024.

The Public Offer

No Competitive Bid

In accordance with regulation 17(1) of the Regulations and section 120 of the Act, the final date for submission of a competitive bid was within 21 days of the PAO. However, no competitive bid was received.

Book Closure

The book closure period to determine eligibility of shareholders to receive an offer letter commenced on June 02, 2024 and ended after a period of seven (7) days on June 08, 2024 ("Book Closure Date"), in accordance with regulation 9 of the Regulations. During that period, the books of the Target Company remained closed. A notice announcing the Book Closure Date was published in Business Recorder (English) and Nawa-i-Waqt (Urdu) newspapers on May 18th, 2024.

List of Shareholders

The Target Company provided the list of registered shareholders of the Target Company at the Book Closure Date to the Manager to the Offer and the Acquirers on June 09, 2024 as per regulation 11(1) of the Regulations.

Offer Letter

A copy of the proposed Offer Letter was submitted to the Commission, the Exchange and the Target Company on April 29, 2024 as per regulation 24(4) of the Regulations. The Offer Letter, which included the Acceptance Letter and instructions to participate in the Public Offer, were sent to all registered shareholders of the Target Company at the Book Closure Date on June 11th, 2024 in accordance with regulation 11(2) of the Regulations and section 117 of the

Advertisement on Acceptance Period

Following the dispatch of Offer Letters to shareholders, an advertisement regarding the acceptance period that commenced from June 14th, 2024 and ended on June 24th, 2024 was published in Business Recorder (English) and Nawa-i-Waqt (Urdu) newspapers on June 12th, 2024 as per regulation 18(1) of the Regulations. The notice of the advertisement was submitted to the Exchange on June 12th, 2024.

Details of Acceptances



The Acceptance Period for the Public Offer commenced on June 14th, 2024 and ended at 5:00 pm on June 24th, 2024 (the "Acceptance Period"). A total of 47 shareholders participated in the Public Offer and tendered a total of 198,120,440 ordinary shares against a total offer size of 277,070,908 ordinary shares of the Target Company.

Therefore, as defined in the Offer Letter dispatched to the shareholders of the Target Company, we accepted all tendered shares from the participating shareholders.

A brief summary of the shares tendered and accepted is provided below for your reference:

	Shares Tendered	Shares Accepted
	198,120,440	198,120,440
Scrip less Form	198,120,440	198,120,440
Total	130/220/110	

Post-Acceptance Period Formalities

All shares tendered were verified by the Manager to the Offer against the list of shareholders as of the Book Closure Date and maintained by the share registrar of the Target Company, Digital Custodian Company Limited. Upon confirmation of accuracy of the share certificates, the Manager to the Offer calculated the pro-rata ratio for acceptance of the shares tendered and released a notice on the website of the Exchange on June 25th, 2024 indicating the total number of shares tendered and their acceptance.

Proceeds to all tendering shareholders were also dispatched via courier to the addresses of the shareholders, as mentioned on the Acceptance Form, by June 28, 2024. The proceeds were made through Pay Orders.

Thereafter, the Manager to the Offer sent a letter to the Commission on June 28, 2024 certifying that the Acquirers had fulfilled all their obligations under the provisions of the Takeover Laws.

We are thankful to the Honorable Commission for their assistance throughout this Public Offer and remain committed to improving the efficiency of the regulatory and enforcement regime. We value your guidance in any way that we can further raise the bar of compliance in Pakistan's capital markets.

For and on behalf of Arif Habib Limited,

Yousaf Bashir

Managing Director, Investment Banking

Enclosed:

- Newspaper cutting of the PAI
- Newspaper cutting of the PAO
- Newspaper cutting of the Corrigendum
- Newspaper cutting of the Acceptance Period advertisement
- 5. Copy of the letter sent to the Commission regarding the complete fulfillment of obligations of Acquirers



28th June, 2024

Executive Director

Public Offering and Regulated Persons Department Securities and Exchange Commission of Pakistan NIC Building, Jinnah Avenue, Islamabad

Subject:

Fulfillment of obligations of the Acquirers in relation to the acquisition of up to 277,070,908 ordinary shares (constituting about 23.20% of the issued and paid-up capital) and joint control of Unity Foods Limited

Dear Sir,

This is with reference to the acquisition of up to 277,070,908 ordinary shares (constituting about 23.20% of the issued and paid-up capital) and joint control of Unity Foods Limited ("Target Company") by Willmar Pakistan Holdings Pte. Ltd., Unity Wilmar Agro (Private) Limited, Mr. Muhammad Farrukh and Ms. Fehmida Amin (hereinafter referred to as the "Acquirer") (the "Transaction").

The Public Announcement of Intention ("PAI") pursuant to the Transaction was published through Arif Habib Limited ("AHL"), in its capacity as the Manager to the Offer, in Business Recorder (English) and Nawa-i-Waqt (Urdu) newspapers on March 20, 2024.

Subsequently, in accordance with the provisions of Securities Act 2015 and the Listed Companies (Substantial Acquisition of Voting Shares and Takeovers) Regulations, 2017 (collectively the "Takeover Regulations"), the Acquirer made a Public Announcement of Offer ("PAO") on April 17, 2024 in conjunction with the Corrigendum to the Public Announcement of Offer to acquire up to 277,070,908 shares (constituting about 23.20% of the total issued and paid-up capital) and joint control of the Target Company on April 25, 2024 and the same was published in Business Recorder (English) and Nawa-i-Waqt (Urdu) newspapers on April 19, 2024 and April 27, 2024. The share acceptance period for the said Public Offer expired on June 24, 2024.

As required under the Takeover Regulations, the Acquirer was required to complete all formalities related to the Public Offer, including dispatch of payment to shareholders as consideration against the shares tendered, within ten (10) days of the close of the acceptance period.

This letter from AHL, the Manager to the Offer, hereby confirms that the Acquirer has fulfilled all its obligations under the Takeover Regulations and the payments have also been dispatched to all the shareholders who tendered their shares as part of this Public Offer.

Yours Sincerely,

For and on behalf of Arif Habib Limited (Manager to the Offer)

Hamza Rehan

Associate, Investment Banking

Yousaf Bashir

Managing Director, Investment Banking

Copy to:

1. Deputy General Manager, Company Affairs, Pakistan Stock Exchange

2. Company Secretary, Unity Foods Limited

Public Announcement of Intention to acquire up to 277,070,908 shares (constituting about 23.20% of the shareholding interest) and joint control of Unity Foods Limited (the "Target Company")

(i) Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd.; (ii) Unity Wilmar Agro (Private) Limited; (iii) Mr. Muhammad Farrukh; and (iv) Ms. Fehmida Amin (collectively the "Acquirers") UnderSecurities Act, 2015

Listed Companies (Substantial Acquisition of Voting Shares and Takeovers) Regulations, 2017

Number of shares	Percentage	
	N/A	
218,886,017 shares	18.33%	
	Number of shares N/A 218,886,017 shares	N/A N/A

Agreement(s)

(iii) Mr. Muhammad Farrukh Intended acquisition through Number of shares Percentage N/A N/A Agreement(s) 52,643,473 shares 4.41%

0.23%

2,770,709 shares

Public Offer

(iv) Ms. Fehmida Amin Intended acquisition through Number of shares Percentage Agreement(s) N/A Public Offer 2,770,709 shares 0.23%

Acquirers:

Public Offer

Intended acquisition through Number of shares Percentage Agreement(s) N/A Public Offer 277,070,908 shares 23.20%

Part B

1) Information about the Acquirers

(a) Name(s) and address(s) of Acquirers along with persons acting in concert, if any.

Name	Address	
Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd.	28 Biopolis Road, Wilmar International, Singapore 138568	
Unity Wilmar Agro (Private) Limited	Unity Tower, 8 C, Block 6, PECHS, Shahreh e Faisal, Karachi	
Mr. Muhammad Farrukh	House no. 115/2 Street 29, Khayaban-e-Muhafiz, Phase 6, DHA, Karachi	
Ms. Fehmida Amin	House no. R-92, Khayaban e Rizwan DHA, Phase VII, Karachi	

1 crowns acting in concert		
Name	Address	
Mr. Safdar Sajjad (deemed to be acting in concert with Unity Wilmar Agro (Private) Limited in his capacity as a director of the company)	House no. C-4, Gulshan-e-Iqbal, Block-6, Karachi	
Mrs. Hina Safdar (deemed to be acting in concert with Mr. Muhammad Farrukh in her sangeity as a sister of Mr. Muhammad Farrukh)	House no. C-4, Gulshan-e-Iqbal, Block-6, Karachi	

(b) Name(s) of ultimate Acquirers or the ultimate controlling shareholder:

- Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd.
- Wilmar International Limited Unity Wilmar Agro (Private) Limited
- Wilmar International Limited*
- (* Wilmar International Limited owns 100% shareholding interest in Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd., which in turn owns 52% shareholding interest of Unity Wilmar Agro (Private) Limited.) The remaining 48% shareholding interest of Unity Wilmar Agro (Private)
- Mr. Muhammad Farrukh
- Ms. Fehmida Amin

(c) Name(s) and address(s) of Manager to the Offer of the Acquirers:

Name	Arif Habib Limited	
Address	2/F, Arif Habib Centre, 23, M.T. Khan Road, Karachi	
(d) Principal areas of hu	siness of the Acquirers and relevant experience	

Wilmar Pakistan Holdings Pte, Ltd.

Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd. was incorporated in Singapore on 30 January 1997 and is a wholly owned subsidiary of Wilmar International Limited ("WIL"), a company listed on Singapore Exchange. The business activities of WIL and its group companies ("Wilmar Group") include oil palm cultivation, oilseed crushing, edible oils refining, flour and rice milling, sugar milling and refining, manufacturing of consumer products, ready-to-eat meals, central kitchen products, specialty fats, oleochemicals, biodiesel and fertilizers as well as food park operations. Wilmar Group has over 1,000 manufacturing plants and an extensive distribution network covering China, India, Indonesia and some 50 other countries and regions. Through scale, integration and the logistical advantages of its business model, Wilmar Group can extract margins at every step of the value chain, thereby reaping operational synergies and cost efficiencies. Supported by a multinational workforce of about 100,000 people, Wilmar Group embraces sustainability in its global operations, supply chain and communities Unity Wilmar Agro (Private) Limited

Unity Wilmar Agro (Private) Limited is principally involved in multi crop oil seed crushing and processing in Pakistan and buys, sells prepares for market and deals in all products related to semi-refined oil, refined edible cooking oil and meals.

(Private) Limitedand Sunridge Foods (Pvt.) Ltd. His career spans over two decades, encompassing various facets of the Fast-Moving Consumer Goods sector, both nationally and internationally. His expertise extends to the processing and trading of food products, agrobased commodities, and animal feeds, involving the sourcing of goods from diverse global origins and their distribution to destinations

worldwide. Ms. Fehmida Amin Ms. Fehmida Amin has vast business experience spanning over 15 years in commodities trading and investments.

(e) In case the Acquirer is a company: (i) Name of the Chief Executive and Directors: Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd.*

S.#	Name	Designation		
1	Ms. Lie Hong Hwa	Director		
2	Mr. Loo Cheau Leong	Director		
*Wilmar	Pakistan Holdings Pte. Ltd.is managed through i	its board of directors and does not have a Chief Executive Office	er appointed as it is not	

required under the laws of Singapore, by which law it is governed. Unity Wilmar Agro (Private) Limited

S.#	Name	Designation	1 1
1	Mr. Muhammad Farrukh	Chief Executive Officer	1
2	Mr. Safdar Sajjad	Director	1
3	Mr. Darwin Indigo	Director	
4	Mr. Kuok Khong Hong	Director	
5	Ms. Lie Hong Hwa	Director	i
Wilderey	- Ballican on Topaco, se de propins		

(ii)Names of substantial shareholders

Name of Acquirer	Substantial Shareholder	Shareholding (%)
Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd.	Wilmar International Limited	100%
Name of Acquirer	Substantial Shareholders	Shareholding(%)
Unity Wilmar Agro (Private) Limited	Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd.	52%
	Unity Enterprises (Private) Limited	48%
Total		100%

(iii) Date of incorporation:		
Name of Acquirers	Date of incorporation	
Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd.	30 January 1997	
Unity Wilmar Agro (Private) Limited	6 September 2017	

(iv) Jurisdiction of incorporation:

Name of Acquirers	Jurisdiction of incorporation			
Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd.	Singapore			
Unity Wilmar Agro (Private) Limited	Karachi, Pakistan			
(v) Authorized and Paid up capital:				

Unity Wilman

Agro (Private) Limited

ame of Acquirers	Authorized Capital	Paid up Capital	
/ilmar Pakistan Holdings Ptc. Ltd.	N/A	USD5,376,984.18	
nity Wilmar Agro (Private) Limited	PKR 2,300,000,000	PKR 2,287,342,500	
Detail of companies, where the intended Ac	quirers hold more than thirty percent v	oting shares:	

Unlisted

				a seem of a seeper	***
Wilmar Pak	nar Pakistan Holdings Ptc. Ltd. N/A USD5		USD5,376,984	.18	
Unity Wilm	nar Agro (Private) Lin	nited	PKR 2,300,000,000	PKR 2,287,342,500	
	f companies, where t Pakistan Holdings Pt		rers hold more than thirty percent	voting shares:	
Name	Registration	Nature	Nature of business	Jurisdiction of	Description held
	No.	(Listed/Unlisted		incorporation	control/more than

The company is principally involved in multi crop

and buys, sells, prepares for market and deals in

oil seed crushing and processing in Pakistan

all products related to semi-refined oil, refined edible cooking oil and meal.

2. Unity Wilmar Agro (Private) Limited - Nil

0111429

3.Mr. Muhammad Farrukh					
Name	Registration No.	Nature (Listed/Unlisted /Private)	Nature of business	Jurisdiction of incorporation	Description held control/more than thirty % shares or both
Unity Feeds	0073194	Unlisted	The company is engaged in the business	Pakistan	50%
(Pvt.) Limited			of manufacturing of vegetable ghee & solvent, extraction plant & produce of meal, edible oil, allied items, and cattle feed.	4	
Kairos Resources (Pvt.) Limited	0156231	Unlisted	The principal activity of the company is management and financial consultant/advisory and to invest the surplus money of the company in	Pakistan	50%

private debt securities and in any real estate projects and to provide in-house advisory service to the sponsors and / or to any of their

related firms /company on a commercial basis

Name	Registration No.	Nature (Listed/Unlisted /Private)	Nature of business	Jurisdiction of incorporation	Description held control/more than thirty % shares or both
Kairos Resources (Pvt.) Ltd.	0156231	Unlisted	The principal activity of the company is management and financial consultant/ advisory and to invest the surplus money of the company in the equity of other companies, in any public and private debt securities and in any real estate projects and to provide in-house advisory service to the sponsors and / or to any of their related firms /company on a commercial basis.	Pakistan	50%
Unity Enterprises (Private) Limited	0106165	Unlisted	The company is engaged in the activity of processing of agro-based commodities, feeds etc.	Pakistan	41.68%

(g) Information about ultimate beneficial owner of the intended Acquirers:

(i) Name(s) of the natural person(s), CNIC/Passport Number, nationality and address of each person

Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd. There is no natural person who is the ultimate beneficial owner of Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd. Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd. is a wholly owned subsidiary of Wilmar International Limited ("WIL"), a company listed on the Singapore Exchange. Further information of WIL is set out below:

Name	Holding %	Date of Incorporation	Jurisdiction of Incorporation	Address
Wilmar International Limited	100%	14 August 1999	Singapore	28 Biopolis Road, Wilmar International, Singapore 138568

Unity Wilmar Agro (Private) Limited

Name	Holding %	Date of Incorporation	Jurisdiction of Incorporation	Address	
Wilmar International	52%	14 August 1999	Singapore	28 Biopolis Road, Wilmar International, Singapore 138568	

- Mr. Muhammad Farrukh
- Ms. Fehmida Amin
- (ii) Details of Companies located in and outside Pakistan, where the ultimate acquirer or the ultimate controlling shareholder held control and /or

Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd.

Wilmar International Limited ("WIL") is the ultimate acquirer or the ultimate controlling shareholder of Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd...WIL also ultimately controls Unity Wilmar Agro (Private) Limited("UWA"), with an effective shareholding interestof 52% in UWA. WIL, founded in 1991 and headquartered in Singapore, is today Asia's leading agribusiness group. WIL is ranked amongst the largest listed companies by market capitalisation on the Singapore Exchange. The business activities of WIL and its group companies ("Wilmar Group") include oil palm cultivation, oilseed crushing, edible oils refining, flour and rice milling, sugar milling and refining, manufacturing of consumer products, ready-to-eat meals, central kitchen products, specialty fats, oleochemicals, biodiesel and fertilizers as well as food park operations. Wilmar Group has over 1,000 manufacturing plants and an extensive distribution network covering China, India, Indonesia and some 50 other countries and regions. Through scale, integration and the logistical advantages of its business model, Wilmar Group can extract margins at every step of the value chain, thereby reaping operational synergies and cost efficiencies. Supported by a multinational workforce of about 100,000 people, Wilmar Group embraces sustainability in its global operations, supply chain and communities. A list of WIL's significant subsidiaries, joint ventures and associates is set out at pages 197-201 of WIL's Annual Report 2022 (https://www.wilmar-international.com/annualreport2022)

Unity Wilmar Agro (Private) Limited

The ultimate acquirer and ultimate controlling shareholder of UWAis WIL which owns 100% of Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd. which in turn owns 52% of Unity Wilmar Agro (Private) Limited. A list of WIL's significant subsidiaries, joint ventures and associates is set out at pages 197-201 of WIL's Annual Report 2022 /www.wilmar-international.com/annualreport2022)

Mr. Muhammad Farrukh

Name	Registration No.	Nature (Listed/Unlisted /Private)	Nature of business	Jurisdiction of incorporation	Description held control/more than thirty % shares or both
Unity Feeds (Pvt.) Limited	0073194	Unlisted	The company is engaged in the business of manufacturing of vegetable ghee & solvent, extraction plant & produce of meal, edible oil, allied items, and cattle feed.	Pakistan	50%
Kairos Resources (Pvt.) Limited	0156231	Unlisted	The principal activity of the company is management and financial consultant/advisory and to invest the surplus money of the company in the equity of other companies, in any public and private debt securities and in any real estate projects and to provide in-house advisory service to the sponsors and /or to any of their related firms /company on a commercial basis	Pakistan	.50%

Ms. Fehmida Amin

Name	Registration No.	Nature (Listed/Unlisted /Private)	Nature of business	Jurisdiction of incorporation	Description held control/more than thirty % shares or both
Kairos Resources (Pvt.) Ltd.	0156231	Unlisted	The principal activity of the company is management and financial consultant/ advisory and to invest the surplus money of the company in the equity of other companies, in any public and private debt securities and in any real estate projects and to provide in-house advisory service to the sponsors and/or to any of their related firms/company on a commercial basis	Pakistan	50%
nity nterprises rrivate) Limited	0106165	Unlisted	The company is engaged in the activity of processing of agro-based commodities, feeds etc.	Pakistan	41.68%

h) Details of any existing holding of voting rights in the Target Company Which the acquirer owns or over which it has control or direction

No of shares held % of shares held Name Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd. ("WPH") 259.535.950 21.74%* Unity Wilmar Agro (Private) Limited ("UWA") 166,153,085 13.92%* Mr. Muhammad Farrukh ("Farrukh") 120,855,029 10.12%* Ms. Fehmida Amin ("Fehmida") 93,364,120 7.82%* 639,908,184

*WPH has a direct shareholding interest of 21.74% and an indirect shareholding interest of 7.23% (through its 52% stake in UWA) in the Target Company. Farrukh has a direct shareholding interest of 10.12% and an indirect shareholding interest of 1.67% (through his indirect stake in UWA) in the Target Company. Fehmida has a direct shareholding interest of 7.82% and an indirect shareholding interest of 2.79% (through her indirect stake in UWA) in the Target Company.

Name	No of shares held	% of shares held
Mr. Safdar Sajjad ("Safdar")	85,825,221	7.19%*
Mrs. Hina Safdar	24,258,979	2.03%
Total	110,084,200	9.22%

*Safdar has a direct shareholding interest of 7.19% and an indirect shareholding interest of 2.23% (through his indirect stake in UWA) in the Target Company. In respect of which the Acquirer or any person acting in concert with him has received an irrevocable commitment to accept

the takeover offer; and in respect of which the acquirer or any person acting in concert with him holds an option to purchase or warrants or other convertible securities.

All conditions (including normal conditions relating to acceptance, listing and increase of capital) towhich the public offer

Part C

2) Information about the Target Company (a) Name of the Target Company, its directors and major shareholders

Unity Foods Limited ("UFL")

Major shareholders:

or both

52%

Name	Designation	
Lt. Gen. Omar Mahmood Hayat (Retd.)	Chairman/Non-ExecutiveDirector	
Mr. Muhammad Farrukh	Executive Director/CEO	
Mr. Abdul Majeed Ghaziani	Non-Executive Director	
Mr. Muneer S. Godil	Independent Director	
Dr. Safdar Ali Butt	Independent Director	
Ms. Lie Hong Hwa (Nominee of Wilmar Pakistan Holdings Pte, Ltd.)	Non-Executive Director	
Mr. Amir Shehzad	Executive Director	

50 21.74%
, 2 ,

1,194,050,000Ordinary Shareswith a face value of PKR 10/- each.

(c) Date of listing and offer price at the time of initial public offering

Offer Price: N/A

*Note: UFL was listed after reverse merger with Taha Spinning in 2016, therefore this is not applicable.

(d) Opening price at securities exchange at time of listing

(e) Share price quoted on the securities exchange one day before the public announcement of intention

PKR 24.04 per share^a * Share price at the close of market hours on March 18, 2024

(f) The weighted average share price as quoted on the securities exchange during twenty-eight days (28) dayspreceding the date of public

PKR 22.61 per share* * Volume weighted average Share price of Unity Foods Limited for the period from February 20, 2024 to March 18, 2024 (g) Financial position/performance of the Target Company for the last five years, including profit/loss after tax, earning per share, payouts:

Amounts in PKR millions 66.400 90.158 Cost of Sales 2,534 27,847 74,338 12,820 61,209 78,018 1,277 562 5,191 4,269 7,845 4,152 12,139 3,570 Gross Profit 248 2,024 Operating Profit 149 735 274 255 2,488 2,436 Profit before tax 194 3,389 163 121 Profit after tax 3,111 567 209 FPS(PKR/share) 0.001 0.001 0.350 3.440 2.040 0.475 DPS (PKR/share)

سيكورڻيزا يكث،2015

لسٹیڈ پینیز (سبسٹینشل ایکوئزیشن آف ووٹنگ شیئر زاینڈ ٹیک اوورز) ریگولیشنز 2017 کے تحت

(i) ولمر پاکستان مولدُنگز پی ٹی ای لمیٹر؛ (ii) یونیٹی ولمرا یگر و (پرائیویٹ) لمیٹرڈ؛ (iii) جناب محمد فرخ؛ اور (iv) محتر مہ فہمیدہ امین (مشتر کہ طور پر ۱۰ حصول کنندگان)

<u> </u>	حسالق	-
		مطلوبه حسول كي مختصر صراحت
		(i) ولمريا كتان مولادْنَكْرْ فِي فَي اى كميشة
فيمد	شيترزى تعداد	مطلوبه چسول کی مختمر صراحت (i) ولرپاکتان مولنگزیی تی ای کمای کمینژ مطلوبه حسول بذریجه
كونىشين	كونيس	معابده (معابدات)
18.33%	218,886,017 شيترز	معامده (معامدات) پلیک آفر
50	830	(ii) يوهيش ولمرا يكرو (يرائيويث) لميثله
يمد	شيترزى تعداد	مطلوبه حصول بذريعه
کونی شین	كوفيس	معابده (معابدات)
0.23%	2,770,709 شيترز	پېک آ فر
50	1.1535	(iii) جناب گوفرخ
فمد	شيتر زى تعداد	مطلوبه حصول بذريعه
كوني شين	كوتىشين	معابده (معابدات)
4.41%	52,643,473 شيترز	يلك آ فر
\$\frac{1}{1}	110	(iv) محتر مه فهمیده امین
فيمد	شيئرزى تعداد	مطلوبه جصول بذريعه
کوفیش	كونىشين	معابده (معابدات)
0.23%	2,770,709 شيترز	پیک آفر کل:
*************************************	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	کل:
فيمد	شيترزى تعداد	مطلوبه حصول بذريعيه
كونىشين	كوتي شين	معابده (معابدات)
23.20%	277,070,908 شيترز	يلِك آ فر

) حصول کنندگان کے بارے میں معلومات

عصول كتدكان كانام اورية (ية) مع ساتهل كركام كرف والعاركوني بول-

**	Ct
28 بائيو پولس روڈ ءولمرا تنزيعشنل سنگا پور 138568	ولريا كستان مولد گلز يي في اي لمينله
يوشش ٹاور، 8C ، بلاک 6 ، بی ای می ان کا ایس ،شاہراہ فیصل ،کرا چی	يوشقُ ولمرا ميكرو(پرائيويث) لمينيْر
مكان فمبر 115 / 2 اسريف 29، خيابان محفوظ، ذى انتج اب، فيز V1 كراچي	
مكان نمبر R-92 ، خيابان رشوان ژى انتخ اپ فيز VII ، كراچى	محتزمه فبهيده ابين
./5	ساتھ ٹل کر کام کرنے والے افراد

مكان نمبر C-4 بكشن اقبال ، بلاك 6 ، كرا جي (باوركياجاتا بيك كمين ك وائر يكثري حيثيت يديش ولرا يكرو (برائيويث)لمين كساته ل كركام كرت بيل) مكان غبر C-4 بكشن اقبال ، بلاك 6 ، كراچي (باوركياجاتا بكرجناب محرفرخ كى بهن كطوريا في حيثيت من جناب محرفرخ كساتهول كركام كرتى بين)

حتی حصول کنندگان یا حتی کنفر دلنگ شیئر مولڈرکا (کے)نام

و آراغز پیشل کمینڈ (* ولماراغز پیشل کمینڈ کر اپنے بے المینڈ میں 100% شیئر ہولڈ تک مود کا الک ہے۔ لمینڈ ،جس کے متیجے میں اپنی ولمارا مگر د (پرائیویٹ) کمینڈ کے 52 فیصد شیئر ہولڈ تک مود کی مکلیت ہے۔) یونی ولمارا مگر د (پرائیویٹ) کمینڈ کا باتى 48 فيصدشيتر مولد تك سود يونى انتريرائز ز (يرائيويث) لميشدى ملكيت ب-) جناب تحدفرخ لوني شيس لوني شيس

محتر مة فبميده امين

كوني تبين

ول کنندگان کے میٹر برائے آفر کا (کے) نام اور پند (یتے) عارف حبيب لميثثه 2/F، عارف حبيب سينفر، 23 ايم ئي خان روۋ، كراچي d) حصول کنندگان کے کاروبار کے بڑے شعبے اور متعلقہ تجرب ولىر پاكستان مولدْ تَكْرْ بِي بِي اى كميشارْ

ولرياً كتان بولد كلز في في ال الميلاء 30 جنور 1997 سنة إور من قام كالى تقى اوريد ولرا تريشش لميلد ("WIL") كالعمل ملكيتن سهبيذرى ب، جوسنة الإرابيجيني من المديث ب ہے۔ تقریباً 100,000 فرادی کشرالقو ٹی ورک فورس کی مدوے ولر گروپ اپنے گلوٹل آپریشنز سپلائی چین اور کیو بیٹیز میں پائیداری حاصل کرتا ہے۔ يويثى ولمرا يكرو (پرائيويث) كميثثه

ر کار وہار کرتی ہاور پاکستان میں تیل کے چ کی متعدد فعملوں کی کرشنگ اور پروسیٹ کا چانٹ جاتی ہے، تیار کردہ معنوعات مارکیٹ سے خرید وفروخت کرتی ہے اور بیمی ریفائنڈ آگل، پکانے کے دیفائنڈ خورنی تیل اور کھانوں ہے متعلق تمام مصنوعات کی خرید وفروخت کرتی ہے۔

جناب فرخ الين بيش فو ذالميند، يوشى ولرا يكر و(برائيويث) لميند، بيش التريه از (برائيويث) لمينداورس دج فو ذر (برائيويث) لميندا ويسا بكرخ وفي الميند عيش التريية والميند والمينوا والمراقب والموادي الميند والمراقب و ے چلے والی مار بلین کی اشیاع سے محکم سے طاق کے بعد کے مصوحات ، زرگا اجزاس اور موسیقیوں کے چار ہے گی بردسینگ اورٹر پڑگ ہے کہ ان کا تھر بھا کہ اس کا تھر بھا کہ اس کا تھر بھا کہ اس کا تھر کہا ہے کہ مصوحات ، زرگا اجزاس اور موسیقیوں کے چار ہے گی بردسینگ اورٹر پڑگ ہے کہ اس کا مستقد کے مسامل کی مورمنگ اوروز پا مع فقط ملكول بين اس كي تقييم شامل ب-

محتر مدفهميده امين محتر مدفهميدوا شن کواشياه كي تجارت اورسر مايد كاري مين 15 سال سے زياده پر محيط وسن كاروباري تجرب ب

حصول کننده کے مینی ہونے کی صورت میں: چیف ایگزیکشواور ڈائزیکٹرز کے نام:

ولريا كتان مولدُ كَلِّز فِي فَي ا ي لميثلة *

18%	(*)	e.s.r
1	محزمهلی ہونگ ہوا	المائز يكثر
2	جناب او چيو ليونگ	الاامريكثر
• ولمريا کشان مولد عز إ يونيش ولمرا نگرو(پرائيو،	یں ٹی کا بیٹٹر کا اتظام اس کے بورڈ اف 'ٹر کیٹرز کے ذریعے جانا جا جا اے اور اس کوکو ٹی چیف آگیز کیٹیز آئیسر مقررٹیس ۔ یف کالمیٹنہ	، پونا منظا پور کے والین کے حت ، تن کے ذریعے اس کا انظام چاریا جاتا ہے، اس فی صرورت کیں ہے۔ -
نبرشار	re l	عبده
1	جناب محدفرخ	چيف ا گيزيکيثيوآ فيسر
		200

ۋازىكثر جناب ڈ ارون انڈیکو ۋازىكثر جناب كووك كھونگ ہونگ ۋازىكىر محتر مهلی ہونگ ہوا شيئر ہولڈنگ (%) بيزاشيئر ہولڈر حصول كنثده كانام

ولمريا كستان مولاتكز في في اى لميشار 100% ولمرا تتزميشتل لمديشة شيئر ہولڈنگ (%) حصول كننده كانام إمريا كتتان مولدُ تَكْز فِي تَى اى يوفيني ولمرا يكرو(پرائيويث) لمويندُ 52% يوهني انزررائز (رائيويث) لمينز 48% 100% iii) قيام كى تارىخ قيام كى تارىخ حصول كنندگان كانام المريا كستان مولدُ تكزيي في اى كميشار 30 جۇرى، 1997 يونيثي ولمرا يكرو(پرائيويث) لمينثه

ولمريا كستان ہولڈنگز کي ئی ای کمیٹڈ سنگا بور يوميثي ولمرا يكرو (يرائيويت)لمينثه کراچی، پاکستان) مجاز اوراداشده سرماید: اداشده سرماميه حصول كتدكان كانام مجازمرمابيه 5,376,984.18 و امريكي ذالر N/A ولمريا كستان مولدُنگز بي تي اي لميشدُ 2,287,342,500 يا كتاني رويي يونيش ولمرا يكرو (پرائيويث) كميشتر 2,300,000,000

الی کمپنیوں کی تفصیل جن میں خواہش مند حصول کنندگان کے پاس تیس فیصد ہے زیادہ دوئنگ شیئر زہیں ولمريا كتتان مولدُنگز بي في اى كميندُ صراحت ، كنثرول حاصل ب/ تمين فيصد قيام كاوائره ءا فقيار كاروباركي نوعيت نوعيت (لسنيذ الحيرلسنيذ ا رجنز يش نمبر ے زیادہ شیئر زہیں یادونوں يرائيويث) کمپنی بنیا دی طور پر پاکستان میں تاہن کی گئی فصلوں کی کرشنگ اور پر وسیسنگ، يونيثي ولمراتيرو غيرلسنيذ 0111429

تيام كادائره ءاختيار

ران کی مارکیٹ میں خرید اور فروشت کا کام کرتی ہے اور سیمی ریفائنڈ (پرائبویث) کمینڈ ئل، ريفائند خورني كوكنگ آئل اوركھانوں سے متعلق تمام پراؤكش كا كاروبار

يوميثي دلمرا ميكرو(پرائيويٽ) کمينٽ

i) قیام کا دائره ما نقتیار: حصول كنندكان كانام

صراحت، کنٹرول حاصل ہے اتمیں فیصد سے زیادہ شیئر زہیں یادونوں	قیام کادائرہءا فتیار	كاردباركياؤعيت	نوعیت (لسٹیڈ اغیرلسٹیڈ ا پرائیویٹ)	رجثر يثن نمبر	جناب محمر فرخ نام
50%	پاکستان	سیخی بیزین کے تھی اور سالونتش ، ایکٹرکش پائٹ اور کھانے کی پیداوار، خوردئی تیل ، حملقد اشیار، اور مویشیوں کے چارے کی تیاری کے کاروبار میں مصروف ہے۔	غيرلستيذ	0073194	يىشى نىدُرْ (پرائيويٹ)لمينئر
50%	پاکستان	کیپنی کی برئی سرگری پنجین اور فائل کنسٹنینشد ایڈوائزری اور کیپنی کی فاشل قم کو دومری کمپنیوں کی ایکونگ کی پیکک اور پرائیویٹ de b t سکتا و شراور کی دسٹل اسٹیسٹ منصوبے میں اویپ کرنا اور اسپا شراور اور ایاان کی دومری متعلقہ فرموں/ ممپنی کوتجارت نیاد پر ان باؤس ایڈوائزری سروی فرامرکز سے۔	فيرلسفيذ	0156231	كيروزريسورسز (پائيويث)لمينڈ

صراحت، کنٹرول حاصل ہے استمیں فیص سے زیاد وثیئر زہیں یادونوں	قیام کادائره ماختیار	كاروبارى توحيت	نوعیت(اسٹیڈ /غیرلسٹیڈ / پرائیویٹ)	رجنز يش نمبر	(٥
50%	پاکستان	کیٹنی کی بڑی سرگری ینجیت اور قافض کسلینیٹ ایڈوائزری اور کیٹنی کی فاضل رقم کو دومری کیٹیوں کی ایگوئی کی پیکک اور پرائیویٹ سکیر رشر اور کی رینل اشیٹ مصوبے میں اویٹ کرنا اور اسیا نسر زاور ایاان کی دومری متعلقہ فرموں/ سکیٹنی کوتیارت بنیادی ان باؤس ایڈوائزری سروی فرام کرنا ہے۔ فرام کرنا ہے۔	غيرلىنى	0156231	كيروزر يسورسز پرائيويث)لمينند
41.68%	پاکستان	کمپنی زرجی بنیاد پر کموڈیٹیز، فیڈو گیره کی پروسینگ کی سرگری میں مصروف ہے	غيراستية	0106165	ئیٹی انٹر پرائزز پرائیویٹ)کمیٹڈ

فطری فرو (افراد) کے نام بی این آئی می / پاسپورٹ نمبر، شہریت اور برفر د کا پید

یسا کوئی فطری فرجیس ہے جو دکریا کستان ہولڈکٹاز پی ٹی ای کمیٹڈ کا حتی تضفیل ما لک ہو۔ دکریا کستان ہولڈکٹاز پی ٹی ای کمیٹلہ و اراز بیشنل کمیٹلہ ("WIL") کا کل ملکتی سپیڈری ہے جو دکریا کستان ہولڈکٹاز ہے جو اسلام کے بارے میں معزید معلومات مندرج

قيام كى تاريخ 28 بائيو پولس روۋ ، ولمرانتر فيشتل سنگا يور 138568 100% 119/ سن، 1999 يوثيثي ولمرا يكرو(يرائيويث) كميثثه قيام كى تارىخ قيام كادائره ءافقيار 28 مائيو پولس روۋ، ولىرا ئۇنىشل سنگا يور 138568 جناب محدفرخ

N/A

(ii) یا کستان کے اندراور باہرائی کمپنیوں کی تفصیلات جس میں حتی حصول کنند ویا حتی کنٹر والگ شیئر ترویا در کوکنٹر ول حاصل ہے اور /یلاس کے پاس %30 سے زیاد وونٹک شیئر زہیں۔

ولمراته يعلن لم ينزل 💛 ("WIL") ولمريا كمتان وولاتكنز في في الح باليذي فتي حاصل كننده يا حق تنزو ولك شيئم ولذر بـ WIL" وليوا بية ين "S2% مولاتيكم ولذنك مناد كسراته يوفق ولمراتكر و (يرائع بيك)لمبيذر ("UWA") كومكي حقى الدوير

1991 میں قائم کی جانے والی WIL جس کا بیڈ کوارٹرسٹگا کا ورسٹ کا ایٹریا کا متازا گری پرنس گروپ ہے۔ WIL سٹگا پورٹی پیٹی تھی مارکیٹ کھوپلوا سڑیٹن کے لحاظ ہے۔ ب بری اسٹیڈ کیٹیوں میں شامل ہے۔ WIL اوراس کی گروپ کهنون ("ولرگروپ") که کاروباری سرگرمینون شن یام آس که کاشت. آم آس پیرگرشتک، خورنی تمل کی ریفائیگیده آفی اور پیاول کاملانگ مشکرمونگیله مجتز بهر پر براونکش کامیزوشیچر گرفت. کے بیکا سنتی کاساتی بستان کیک بروونکش استخطاط کاملان که استان که این که استفاد کاملان که استان که این که دارند کامل کاملان که استان که این که دارند که این که دارند که این که دارند که کیمیکڑ ہا کو ذین اور کھا داوراس کے علاوو فوڈ بارک آپر بیٹوشال میں۔ولرگروپ کے 1,000 سے زیاد دمینو میکی کھیا گڑ ان اور کھنا کہ اور کھنا کہ اور کا احاط کرتا ہے۔ دلرگر وپ پنے برنس ماؤل کے پیانے مائیکر میش اور س ورسال ورسال کی مہوتوں کے ذریعے ویلیوجین کے برقدم پر بارجنو عاصل کرسکتا ہے،اس طرح آئر پیشل مطابقت اور لاگئی صلاحیتوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ تقریبا 100,000 افراد کی کثیر القوی

ورک فورس کی مدو ہے ولرگروپ اپنے گلوبل آپریشنز سپالی چین اور کیوبیٹیز میں یا ئیداری حاصل کرتا ہے۔ (https://www.wilmar-international.com/annualreport2022) کے ایم سیسٹرریز، جوانگ ویٹے زادورائیوی ایش کی فیرست WIL کی سالاندر پورٹ 2022 کے صفحات 207-197 پردی گئی ہے۔ يوقيقي ولمرا يكرو (يرائيويث) لميثثر

تیکٹی وار انگر و (پرائیویٹ) کمیٹلہ کا حتی حصول کنندہ اور حتی کنٹر والگ شیئر وولڈر ولر رائز میشنل کمیٹلہ کے پاس ہے جو رولر پاکستان وولڈکٹر پی ٹی ای کمیٹلہ کا %100 ما لک ہے۔ ولر پاکستان بولڈکٹر پرائیو جو بدلے میں بیٹی ولمارا مگرو ولراعز بيشتل كمينذى ابهم سهيد ريز ،جوائف ويثر زاورايسوى ايش كي ايك فبرست ولمرائز بيشتل كمينذك سالا ندر يورث 2022 كے شخات 201-197 يردي گئي ہے۔

صراحت، تشرول حاصل ہے اسمیں % سے زیادہ شیئر زہیں یا دونوں	قیام کا دائره م <i>ا حتنی</i> ار	کاروپارکی توحیت	نوعیت (اسٹیڈ /غیراسٹیڈ / پرائیویٹ)	رجنز يش فمبر	Ct.
50%	پاکستان	کھٹن میزیوں سے تھی اور سالوعکس، ایکسٹرشن باان اور کھانے کی پیداوار، فرود فی تیل، متعلقہ اشیار، اور مویشوں کے بیارے کی تیاری کے کاروبارشن مصروف ہے۔	فيراسلية	0073194	یوننٹی فیڈز (پرائیویٹ) کمینٹڈ
50%	پاکستان	کمپنی کی بری سرگری پنجنست اور خانطن کنسلنین ارایگردانزری اور کمپنی کی فاصل رقم کو دوسری کمپنیوں کی ایکونگی، کسی پیلک اور پرائیج یک اطلاع کمپنیوں کی ایکونگی، کسی پیلک اور پرائیج بیش را اور ایرا نیج بیش را اور ایرا نیسز را اورا ایرا نیسز را اورا کمپنی کوئیمارت منبیاد بری ان بالاس ایرا وارای منافذ فرموس کمپنی کوئیمارت منافذ فرموس کمپنی کوئیمارت منافذ کرد استرای منافذ کرد استرای کمپنی کوئیمارت منافذ کرد استرای کمپنی کوئیمارت منافذ کمپنی کوئیمارت کمپنی کوئیمارت کمپنی کوئیمارت کمپنی کوئیمارت کمپنی کمپنی کوئیمارت کمپنی کوئیمارت کمپنی کمپنی کوئیمارت کمپنی کوئیمارت کمپنی کمپنی کوئیمارت کمپنی کمپنی کمپنی کوئیمارت کمپنی کرد	غيرلسلية	0156231	کیرون ریسورسز (پرائنویٹ) کمیٹٹر

2 10 1				3 44	. محتر مهفهمیده امین
صراحت، تشرول حاصل ہے/ تعمی % سے زیادہ شیئر زمیں یا دونوں	قیام کا دائره ءا فقتیار	کاروبارگی نوعیت	نوعیت (کسٹیڈ اغیرکسٹیڈ ا پرائیویٹ)	رجشریش تمبر	ر د
50%	پاکستان	کیفنی کی بری سرگری میتجند اور تافض تسلینت ابدار از ری اور کیفنی کی فاصل رقم کو دوسری مینید اور کیفنی کی طاحت ا فاضل رقم کو دوسری مینید کی ایکونی می بیلک اور پراتیدید کا ایران اس استید ریشرا اور کیوانات کی مینید ریشل امنیت منصوب مینی اور پید کرنا اور اس انسر استیاد کی دوسری متعاقد فرمول/ میکینی کوتیارت بنیاد پران باؤس اید وائزری سروس فرام کرنا ہے۔ فرام کرنا ہے۔	غيرلسليذ	0156231	كيرول رئيورمز (پرائيويث) لمينند
41.68%	پاکستان	کمپنی زرق بنیاد پر کموڈیٹیز، فیڈ وگیرہ کی پروسینگ کی سرگری میں مصروف ب	غيرلسلية	0106165	يوبيٹی انٹر پرائزز (پرائیویٹ)لمیٹٹر

(h) نارگ مینی میں ووٹک رائنس کی کسی موجودہ ملکیت کی تفصیلات جہر ایک ایک ایک کا میں ایک کسی موجودہ ملکیت کی تفصیلات

	ے مم دینے کا افتیار ہے - م	i) من کا مسول کننده ما لک ہے یا جن پراس کا سنرول ہے یا ا
ملكتى شيئر زكا قيصد	مكيت مينشيترزى تعداد	رد
21.74%	259,535,950	ولريا كستان مولذتكز يي في اى لمينله
13.92%	166,153,085	يوضني ولمرا يكرو(پرائيويت) لمينڭ
10.12%	120,855,029	جناب محرفرخ
7.82%	93,364,120	محتر مدفيميد وايين
53.59%	639,908,184	کل

WPH ناراك تعني شين 21.74% كا براه راست شيئز بولانيك مفاواور 72.8% كا بالواسط شيئز بولانيك مفاواور WWA شاست 🚅 1526 سنيك كـ ذرييع) متني 🚅 برخ رائي راميخ في شين 10.12% كا براه راست شيئز بولانيك مفاواور . 1.67% ما بالواسط شیتر وولانگ مفاو (WA بل ش اینچه بالواسط استیک کردریه برای کری بین سال مراسط استیک کردریه با اواسط شیتر وولانگ مفاو (WA) و است شیتر وولانگ مفاو (2.79% ما و (WA) بالواسط شیتر وولانگ مفاو (WA) بالواسط شیتر وولانگ مفاو (WA) بین این بالواسط استیک ک

1917	اتھول کر کام کرتا ہے۔	ii) جو کسی ایسے فروکی ملکیت یا تنثرول میں ہے یا جس پراس کا تھم چاتا ہے جوحصول کنندہ کے سا
ملكيتي شيئرز كافيصد	مكيت بين شيئرز كى تغداد	رد
7.19%	85,825,221	جناب صندر سجاو
2.03%	24,258,979	محتر مدحناصقدر
9.22%	110,084,200	كال
+ 76	(of 15 Gall with a portion A hit. Edin	و حدد الراكر كميني مل 20 تركيز باري شيئر براد مي روران رود و مركز الداراشية

iii) جس سے تعمن میں حصول کنند ویااس کے ساتھ ل کر کام ،کرنے والے کی فرد کے ساتھ لیک اور آ فر قبول کرنے کے لیے کوئی نا قاتل تغینے ویدہ کیا گیا ہو: اور جس سے تعمن میں حصول کنند وہ یااس کے ساتھ ل کر کام کرنے والے کی فرد کے ساتھ لیک فرد کے پاس خرید نے یا وارتش يا قابل تبديل سيكيور ثيز كا آپشن ہو۔

ووتمام شرائط (بشمول آبوایت باسٹنگ اور سرمائے میں اضافہ مے متعلق معمول کی شرائط)جن کا تعلق پلیک آفریا اس کے بیجیک کی پیسٹنگ ہے ہے۔

2) ٹارگٹ مینی کے بارے میں معلومات (a) ٹارگٹ کمپنی،اس کے ڈائر یکٹر زاور بڑے شیئر ہولڈرز کے نام

يوفيني فو دُ زلميندُ

ڈائزیکٹرز *		
۲t	مي <i>ر</i> ه	
ليفشينت جزل (ريثائرة) عمرمحود حيات	چير من/نان	يُودُّارَ يَكِشْ
7.35 12	النجر بحثيوذائر	ا ځاو
جناب مبدالجيد غازياني جناب مبدالجيد غازياني	نان الَّيْزِ يَكِيْدُوا	
جناب منیرالین گوؤیل ڈاکٹر سفدر کلی بٹ	الله يوند نث ا	
ڈا کٹر صفدرعلی بٹ	الله مويد نث ا	
مر لی ہا تک ہوا (ولر یا کتان ہولڈنگز پی ٹی ای لمینڈ کی نامز وکروہ) ان الكَرْ يَكِيْوا	
جناب عامرشتمراد بزے شیئر مولڈرز:	ا نگزیکشوذ انر	
يزع شيتر مولڈرز:		
شيتر بولدر	ملكيتي شيترز	اداشده سرمائ كافيصدى
ولريا كستان ہولڈ تگز ہي ٹي ای لميشار	259,535,950	21.74%

(b) ٹارگٹ کے جاری شدہ شیئرز کی کل تعداد -/10 ياكتاني رويے في كى فيس ويليو كے ساتھ 1,194,050,000 آرڈ يزى شيئرز-

السلنگ كى تاريخ اورافيشل بلك آفرنگ كے وقت آفر برائس

IPO كاترى : N/A

آفريائن: N/A (d) اندراج كوفت يكيور ثيرا يجيخ من تاريخ آغاز

N/A (c) ارادے کے اعلان عام ہے ایک روز قبل سیکیو رشیز ایج پینے میں کوٹ کی جانے والی شیئر پر ائس

24.40 يا كنتانى روپ فى شيئر *

18 مارچ 2024 كوماركيث كاوقات بند بون يرشيتر يرائس ارادے کے اعلان عام کی تاریخ سے اٹھائیس (28) دن پہلے کے دوران سیکیو رٹیز ایکیجی ٹیس کوٹ کی جانے والی weighted اوسطشیئر پرائس

22.61 ما كنتاني رويه في شيئر *

** 20 فرورى 2024 _ 18 مارى 2024 كى مت ك ليد يويشى فو دلميشكى واليوم weighted اوسط شيتر يراكس

چھل پانچ سالوں کے دوران کمپنی کی مالی صورت حال/ کارکردگی بشول نفع اقتصان اجداز تیکن ، آمدنی فی شیمتر ، اوانیکیاں: رقمPKRمليزين 2023 2022 2021 2020 2019 2018 محاصل 90,158 82,184 66,400 29,872 14,097 2,782 فروخت كى لأكت 74,338 27,847 12,820 2,534 78,018 61,209 7,845 1,277 مجموعي منافع 12,139 5,191 2,024 248 3,570 4,152 4,269 735 562 149 كاروبارى نفع نفع قبل از فيكس 3,389 194 274 97 163 2,488 نفع/بعداز فيكس 567 2,436 255 121 EPS (پاکتانی روپے فی شیئر) 2.040 0.001 0.475 3,440 0.350 0.001 DPS (پاکتانی روپے فی شیئر) 0.5

Public announcement of public offer to acquire up to 277,070,908 shares (constituting 23.20% of the shareholding interest) and joint control of Unity Foods Limited (the "Target Company")

By
(i) Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd.; (ii) Unity Wilmar Agro (Private) Limited; (iii) Mr. Muhammad Farrukh; and (iv) Ms. Fehmida Amin (collectively the "Acquirers") **Under Securities Act, 2015**

Listed Companies (Substantial Acquisition of Voting Shares and Takeovers) Regulations, 2017

BEEN CLEARED, VETTED OR A A LIMITED PURPOSE OF OVE ARE IN CONFORMITY WITH T TOODS LIMITED TO TAKE AN RESPONSIBILITY EITHER FO	RSEEING WHET THE LAW/REGU INFORMED DECI R FINANCIAL SO	HER THE DISCLOSURES LATIONS. THIS REQUIRE SION WITH REGARD TO T DUNDNESS OF THE ACQ	CONTAINED THEREI MENT IS TO FACILIT HE PUBLIC OFFER. TI UIRERS OR THE COM	IN ARE GENERAI FATE THE SHARE HE COMMISSION MPANY WHOSE S	LY ADEQUATE AND EHOLDERS OF UNITY DOES NOT TAKE ANY SHARES/CONTROL IS
ROPOSED TO BE ACQUIRE ROPOSED TO BE ACQUIRE ROPOSED AL: CORRECTNESS, ADEQUACY DEFFER, ARIF HABIB LIMITED DEFFER, ARIF HABIB LIMITED DEFFER, ARIF HABIB LIMITED DEFFER ARIF HABIB LIMITED APRIL 170 DERTIFICATE DATED APRIL 170	D OR FOR THE SO BE CLEARLY AND DISCLOSUR IS EXPECTED TO ELY. FOR THIS	CORRECTNESS OF THE 7 UNDERSTOOD THAT T RE OF ALL RELEVANT IN EXERCISE DUE DILIGEN PURPOSE, THE MANAG	STATEMENTS MAD HE ACQUIRERSARE FORMATION IN THIS CE TO ENSURE THAT ER TO THE OFFER	DE OR OPINIONS OPRIMARILY RES DOCUMENT. TH ACQUIRERS DUI HAS SUBMITTEI	EXPRESSED IN THE SPONSIBLE FOR THE E MANAGER TO THE Y DISCHARGE THEIR A DUE DILIGENCE
Brief description of the acquisition Wilmar Pakistan Holdin Acquisition through			Percentage	Duio	e per Share
Agreement(s) Public Offer	N/A 218,886,0		N/A 18.33%	N/A	24.89
i) Unity Wilmar Agro (Pri Acquisition through	Number o	f shares	Percentage		e per Share
Agreement(s) Public Offer iii) Mr. Muhammad Farruk	N/A 2,770,709	shares	N/A 0.23%	N/A PKR	24.89
Acquisition through Agreement(s)	Number o	f shares	Percentage N/A	Pric N/A	e per Share
Public Offer (v) Ms. Fehmida Amin	52,643,47	3 shares	4.41%		24.89
Acquisition through Agreement(s) Public Offer Total:	Number o N/A 2,770,709		Percentage N/A 0.23%	N/A	e per Share
Acquisition through Agreement(s) Public Offer	Number o N/A 277,070,90		Percentage N/A 23.20%	N/A	e per Share
. THE ACQUIRERS		Part-B			
Name and registered addressof to be acting in		(ii) Unity Wilr	kistan HoldingsPte. Lto nar Agro (Private) Lim nmad Farrukh	i	
		Name Wilmar Pakistan	Address 28 Biopolis Road,		CNIC Number N/A
		HoldingsPte. Ltd. Unity Wilmar Agro (Private) Limited	Unity Tower, 8C, 1 Shahreh e Faisal, k	Block 6, PECHS,	N/A
		Mr. Muhammad Farrul Ms. Fehmida Amin	Kh House no. 115/2 Si Khayaban-e-Muha DHA, Karachi, Pal House no. R-92, K	treet 29, fiz, Phase 6, kistan hayaban e Rizwan	42201-9556701-7 42201-8315962-2
		Following are the names a			
		Mame Mr. Safdar Sajjad (deemed to be acting in concert with Unity Wilmar Agro (Private) Limited in his capacity as a director of the	Address House no. C-4, Gu Block-6, Karachi,		CNIC Number 42201-8118026-1
		company) Mrs. Hina Safdar (deemed to be acting in concert with Mr. Muhammad Farrukh in her capacity as a sister of Mr. Muhamm. Farrukh)	House no. C-4, Gu Block-6, Karachi,		42201-9022233-0
Date and jurisdiction of incorp	oration	i) Date of incorporatio Name of Acquirers	n:	Date of inco	
		Wilmar Pakistan Holdii Unity Wilmar Agro (Pr	ivate) Limited	30 January 6 September	
		ii) Jurisdiction of incor Name of Acquirers Wilmar Pakistan Holdii Unity Wilmar Agro (Pr	ngsPte, Ltd.	Jurisdiction Singapore Karachi, Pal	of incorporation
Authorized and issued share ca	pital	Authorized and Issued/Pai		zed Capital	Paid up Capital
		Wilmar Pakistan Holding Unity Wilmar Agro (Priv	sPte. Ltd. N/A	000,000,000	USD 5,376,984.18 PKR 2,287,342,500
f there is more than one elationship	•	Wilmar Pakistan Holdings (Private) Limited. The rer (Private) Limited. Mr. Muhammad Farrukh Limited and is the chief executive officer of the Ta Ms. Fehmida Amin is the n interest in Unity Enterprise	naining 48% sharehold owns a 25% sharehold executive officer of the rget Company. nother of Mr. Muhamma es (Private) Limited.	ing interest is ownering interest in Unite company. Mr. Fad Farrukh. She own	nd by Unity Enterprises ty Enterprises (Private) surrukh is also the chief s a 41.68% shareholding
TargetCompany already held l Ind the persons acting in conce	by the Acquirers	i) Which the acquirer of Name Wilmar Pakistan Holding	serte Ltd ("WPH")	No of shares held 259,535,950	% of shares held 21.74%*
		Unity Wilmar Agro (Priv Mr. Muhammad Farrukh	ate) Limited ("UWA")	259,535,950 166,153,085 120,855,029	13.92%* 10.12%*
		Ms. Fehmida Amin ("Fel Total" *WPH has a direct sharehol (through its 52% stake in U *Farrukh has a direct share 1.67% (through his indirect *Fehmida has a direct share! (through her indirect stake)	ding interest of 21.74% a WA) in the Target Comp sholding interest of 10.1 stake in UWA) in the Ta- nolding interest of 7.82%	oany. 2% and an indirect arget Company. and an indirect share	shareholding interest of
		1	, ,	1 2	oncert with the Acquirers
		Mr. Safdar Sajjad Mrs. Hina Safdar		85,825,221 24,258,979	7.19%* 2.03%
		* Safdar has a direct shareho (through his indirect stake i			9.22% nolding interest of 2.23%
Number of shares issued since t inancial year of the Acquir ompany)		Details are as follows: Name	. owa) iii ine Target C	Number of sha	ares issued since last financial year
		Wilmar Pakistan Holdin		4,506,766	rs
Details of re-organization of			ngsPte. Ltd.	228,734,250	
luring the last two financial yes	ars preceding the				
Details of any bank overdrafts of similar indebtedness, mortga	ges, charges or	i. Wilmar Pakistan Holdi None			
other material contingent li Acquirers and subsidiaries if an no such liabilities a statement to	y and if there are	ii. Unity Wilmar Agro (P None			
		iii. Mr. Muhammad Fari None iv. Ms. Fehmida Amin	ukh		
Cinancial Adulation 4 4	irors	None			
Financial Advisors to the Acqui Brief history and major areas of Acquirers (in case of the Ac	f operation of the	N/A Following is the brief histor i. Wilmar Pakistan Holdir		rations of the Acquir	ers (In case of company):
company) Principal areas of business of the relevant experience (in case of being an individual)	he Acquirers and	Wilmar Pakistan Holdings wholly owned subsidiary of Singapore Exchange. The binclude oil palm cultivation, and refining, manufacturing specialty fats, oleochemicals has over 1,000 manufacturing Indonesia and some 50 oth	Pte. Ltd. was incorporate of Wilmar International usiness activities of WIL bilseed crushing, edible of g of consumer products, g biodiesel and fertilizers in g plants and an extensiver countries and regions.	Limited ("WIL"), and its group compa ils refining, flour and ready-to-eat meals, as well as food park of e distribution netwo Through scale, inte	a company listed on the nies ("Wilmar Group") rice milling, sugar milling central kitchen products, perations. Wilmar Group rk covering China, India,

has over 1,000 manufacturing plants and an extensive distribution in two to coming clinic, man, Indonesia and some 50 other countries and regions. Through scale, integration and the logistical advantages of its business model, Wilmar Group can extract margins at every step of the value chain, thereby reaping operational synergies and cost efficiencies. Supported by a multinational workforce of about 100,000 people, Wilmar Group embraces sustainability in its global operations,

IT IS TO BE DISTINCTLY UNDERSTOOD THAT FILING OF DOCUMENT OF PUBLIC OFFER WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE

		mida Amin has vast bu lities trading and investn		ing over approximately 15 years in		
same and addresses of sponsors or persons	Followin	ng are the sponsors/ pers	ons having control over the	he Acquirers:		
aving control over the Acquirers	i. W Ac ii. Un (** (** (** (** (** (** (** (Wilmar International Limited Address: 28 Biopolis Road, Wilmar International, Singapore 138568 ii. Unity Wilmar Agro (Private) Limited Wilmar International Limited* (* Wilmar International Limited owns 100% shareholding interest in Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd., which in turn owns 52% shareholding interest in Unity Wilmar Agro (Private) Limited. The remaining 48% shareholding interest in Unity Wilmar Agro (Private) Limited is owned by Unity Enterprises (Private) Limited. Address: 28 Biopolis Road, Wilmar International, Singapore 138568 iii. Mr. Muhammad Farrukh N/A				
vame and addresses of board of directors of the	N/		dresses of the directors of	Al- Ain		
ame and addresses of board of directors of the	S. No		Name	Address		
11		Acquirers Wilmar Pakistan				
	1.	Holdings Pte. Ltd.	Ms. Lie Hong Hwa	105 Prince Charles Crescent #10-13 The Crest Singapore 159019		
			Mr. Loo Cheau Leong	5 Florence Close Singapore 549595		
	2.	Unity Wilmar Agro (Private) Limited	Ms. Lie Hong Hwa	105 Prince Charles Crescent #10-13 The Crest Singapore 159019		
			Mr. Kuok Khoon Hong	35 Victoria Park Road, Singapore 266516		
			Mr. Darwin Indigo	11 Kingsmead Road, Singapore 267964		
			Mr. Muhammad Farrukh	House no. 115/2 Street 29, Khayaban-e-Muhafiz, Phase 6, DHA, Karachi, Pakistan		
			Mr. Safdar Sajjad	House no. C-4, Gulshan-e-Iqbal, Block-6, Karachi, Pakistan		
	3.	Mr. Muhammad Farrukh		N/A		
	4.	Ms. Fehmida Amin		N/A		
Brief audited financial details of the Acquirers for						

i. Mr. Muhammad Farrukh

ii. Ms. Fehmida Amin

Unity Wilmar Agro (Private) Limited is principally involved in multi crop oil seed crushing and processing in Pakistan and buys, sells, prepares for market and deals in all products related to semi-refined oil, refined edible cooking oil and meals. Following are the principal areas of business of the Acquirers and relevant experience (in case

Mr. Muhammad Farrukh is the Chief Executive Officer of the Target Company, Unity Wilmar

Agro (Private) Limited, Unity Enterprises (Private) Limited and Sunridge Foods (Pvt.) Ltd. His career spans nearly two decades, encompassing various facets of the Fast-Moving Consumer Goods sector, both nationally and internationally. His expertise extends to the processing and trading of food products, agro-based commodities, and animal feeds, involving the sourcing of goods from diverse global origins and their distribution to destinations worldwide.

Particulars	Unity Wilmar Agro (Private) Limited (reported in PKR Million)				
	2023	2022	2021	2020	2019
	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
Total Revenue	-	-	-	-	-
Total Expenditure	7	10	45	47	66
Earnings before depreciation, interest					
and tax	(1)	99	551	6	(36)
Depreciation	6	6	6	6	-
Interest and Tax	-	29	155	42	31
Profit/(Loss) Before Tax	(7)	93	520	(41)	(67)
Profit/(Loss) After Tax	(7)	64	390	(42)	(67)
Provision for tax	-	-	-	-	-
Earnings/(Loss) Per Share (Diluted)	-	-	2	-	-
Dividend Per Share	-	-	-	-	-
Dividend Payout	-	-	-	-	-
Return on net worth	-	-	-	-	-
Book value per share	15	19	36	10	10
Total Equity	3,533	4,259	5,632	2,230	2,221
Total Liabilities	583	539	3,804	412	352
Current Liabilities	583	539	3,804	412	352
Non-Current Liabilities	-	-	-	-	-
Total Assets	4,116	4,797	11,987	2,642	2,573
Current Assets	1,288	1,286	4,481	1,728	1,723
Non-Current Assets	2,828	3,512	7,507	913	851
Particulars		Wilmar P	akistan HoldingsPte	e. Ltd.	

Non-Current Assets	2,020	3,312	7,507	913	831
Particulars			ikistan HoldingsPt		
			ed in USD thousan		
	2022	2021	2020	2019	2018
	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
Total Revenue	0	0	0	0	0
Total Expenditure	-337	-227	-91	-1	-16
Earnings before depreciation,					
interest and tax	-91	11	-12	-1	-16
Depreciation	0	0	0	0	0
Interest and Tax	-246	-181	-80	0	0
Profit/(Loss) Before Tax	-337	-170	-91	-1	-16
Profit/(Loss) After Tax	-337	-170	-91	-1	-16
Provision for tax	0	0	0	0	0
Earnings/(Loss) Per Share (Diluted)	-0.07	-0.04	-0.02	0.00	0.00
Dividend Per Share	0	0	0	0	0
Dividend Payout	0	0	0	0	0
Return on net worth	0	0	0	0	0
Book value per share	3.3	3.4	4.2	2.0	2.0
Total Equity	14,813	15,150	18,862	9,135	9,135
Total Liabilities	43,934	32,893	15,617	11,286	11,286
Current Liabilities	43,934	32,893	15,617	11,286	11,286
Non-Current Liabilities	0	0	0	0	0
Total Assets	58,747	48,043	34,480	20,421	20,421
Current Assets	9,080	26,261	9,155	9,136	9,136
Non-Current Assets	49,667	21,782	25,324	11,285	11,285

Total Assets		58,747	48,043	34,480	20,421	20,421
Current Assets		9,080	26,261	9,155	9,136	9,136
Non-Current Assets		49,667	21,782	25,324	11,285	11,285
Details of any agreement or arrangement the Acquirers and the directors of the Company about any benefit which will to any director of the Target Compensation for loss of office or other connection with the acquisition	he Target II be given mpany as					
Details of every material contract entermore than two years before the date of announcement of public offer, not contract entered into the ordinary business carried on or intended to be oby the company.	the public being a course of					
Details if the Acquirers are a direct		-				
board of directors of any listed compar	ny(s)	Name			Current Directors listed company(ies	
		36.36	1. 12. 11		XX-3	1

		listed company(ies)
	Mr. Muhammad Farrukh	Unity Foods Limited
	Ms. Fehmida Amin	None
2 DETAILS OF THE BUDLIC OFFED		

Names, dates and editions of the newspapers where the public announcement of public intention was published	The public announcement of intention was published in the English newspaper 'Business Recorder' and Urdu newspaper 'Nawa-I-Waqt' on 20 March, 2024.
Number and percentage of shares proposed to be acquired by the Acquirers from the shareholders through agreement, if any, the offer price per share and the mode of payment of consideration for the shares to be acquired	
Reasons for acquiring shares or control of the Target Company	The Acquirers are seeking to increase their collective ownership share in the Target Company as a signal of their confidence in the prospects and growth of the Target Company.
	The Target Company has, in recent years, established itself as a prominent staple food company in Pakistan. The Acquirers are supportive of the Target Company's management's vision to transform the Target Company into a leading player in the region in food and related sectors.

ails regarding the future plan for the Target	Acquirers' vision for investing in the Target Company
npany, including whether after acquisition the get Company would continue as a listed apany or not	The Acquirers are supportive of the Target Company's management's vision to transform the Target Company into a leading player in the region in food and related sectors. The Acquirers have no plans to change the listed company status of the Target Company.

tails regarding the future plan for the Target mpany, including whether after acquisition the rget Company would continue as a listed mpany or not In case there is any agreement with the present management, promoters or existing shareholders of the Target Company, an overview of the important features of the agreement(s), name of seller(s), complete addresses of sellers, names of parties to the agreement(s), date of agreement(s), manner of payment consideration, additional important information, if any

'A resilient ESG strategy is no longer optional but a must': KE CEO

are aware of sustainability as revolved around responsible nentially increasing the posibe integrated into their core objectives. A resilient ESG gy and digitalization in dristrategy is no longer optional ving efficiency. but a must. At KE, we're The consensus was that steering the sustainability embedding sustainability into agenda with a structured core operations can create a roadrup, because we under- competitive advantage for stand it is pivotal for the customers and businesses future," said Moonis Alvi, alike. CEO KE during a panel dis-cussion titled, "Sustainability KE for being a leader in the 2030. the need for resilience and sustainability, armidst repidly nd Climate Change' at the utility space in the areas of 24th Association of Pakistan energy management systems. (MAP) Convention while

ment to ESG principles. Director, Unity Foods; Electric Solutions; Umar the future. He also proudly Khan.

RECORDER REPORT Idrees, CCO Engro tiative set a precedent for util- Umar Absan Khan, CEO KARACHI: "Businesses Polymer. The discussion ities across the country, expo- Dawlance, mentioned the

emphasizing KE's commit-being made to uplift the Alvi was joined by a partel how the deployment of tech-System (ADMS) would take Dawlance, and Muhammad. 'Naya Bill, Hara Qadam' mi- tional standards.

sourcing of resources, and tive impact on the environvention of resizing the bill. He spoke enthusiastically The consensus was that about his confidence in the company's ability to raise funding for its 640 MW

Others also shared how evolving climatic conditions. Management grid automation and usage of R&D is at the forefront of their future visions in an a variety of sectors - agreed Acknowledging the efforts evolving clim

of notable executives, name-nology such as the Advanced resilient, or nudging cus-Humayun Akhlaq, CEO & KE's distribution network to usage of electric appliances, Country President Schneider a "gold plated standard" in and even preparing to embed CEO shared how the company's for compliance with interna-

need for collaboration across and supply chains, and shared that they have a dedicated R&D team which is underscoring their commitment to innovation and technological advance. On the other hand, renewable projects as well, a Humayun Akhlaq, CEO & step towards the company's Country President Schneider step towards the company's Country President Schneider vision to increase share of Electric Solution reiterated

All punclists - representing that investment in sustainabil-This included attention on ity is a long-term endeavor. power sector, Moonis shared developing better quality and organizations embarking seeds which are climate on this journey should not narrow their lens when it ly, Amir Shehead, Executive Distribution Management tomer behaviors by educat- comes to capital deployment pled with a strong commitment are essential to achieve meaningful results in the future, regardless of the sector in question.

Tajir Dost Scheme

Major challenges in successful implementation highlighted

prehensive consultation, sechsological and digital literacy gaps, difficulty in determining the fair market ers, aims to simplify tax such as lack of comprehen- the issuance of credit notes to value of business gremises, and lack of clarity around the formula for calculating compliance and formalise difficulty in determining the sales tax return concept, indicative income are the the informal sector. fair market value of business. He also informed the major challenges in the succossful implementation of applies to traders and shop- around the formula for cal- related to the sales tax regis Tagir Dost Scheme (TDS).

seminar on TDS and countering fake invoices organ-companies and nation-ised by the Karachi Tax Bar al'international chain stores. Association (KTBA) at the Bar Chamber here on mandatory registration in a 350(1)/2024.
Thursday. National Business Registry. These ame

procedure, announced by income" calculation. the Federal Board of Revenue (FBR) to facilitate lighted several challenges cover areas like registration small traders and shopkeep- and issues with the scheme, requirements, restrictions on procedures and provide sive consultation, technolog- surregistered persons, and the

keepers operating through a culating indicative income. These views were fixed place of business in expressed by the speakers at specified cities in Pakistan, He said that TDS includes 2006

incentives to encourage ical and digital literacy gaps, introduction of a "provisional He said that the TDS premises, and lack of clarity ticipants about the stati

Tarique, senior manager, of single-member companie with certain exclusions like Moore Shekha Mufti dis- comprising a majority of the companies and nation-cussed recent amendments registered persons, but con-al international chain stores. made to the Sales Tax Rules, tributing only around 7% of

However, he also high-trillion. The amendments

He also informed the par Meanwhile, Muhammad with individual, AOP, and through SRO the total sales tax collection. He highlighted the These amendments were need for stronger measures During his presentation, a requirement to pay month-introduced to counter the to address the challenge of Zeeshan Merchant, former by advance tax which will be issue of fake and flying fraudulent activities and president KTBA said that the minimum tax, and a for-invoices, which have resulted sales tax evasion.

MPCL successfully drills, tests 3rd appraisal well in Ghazij

KARACHE appraisal well in the Ghazij 2023.

Losse (D&PL) in Sindh.

formation in the Mart. The well was spudded in on. Pressure (WHFP) of 490 completion of requisite regu-Development and Production. February 15, 2024, and drilled pounds per square inch (Psi). latory formalities.

Total

down to a depth of 1,483 at 64/64-inch choke size. This well is a part of the meters. The post-acid gas material inform Petroleum Company Limited appraisal programme for the flow rate from the well was Pakistan Stock Exchange on (MPCL) has successfully. Ghazij discovery which was 10.5 Million Standard Cubic. Thursday said. drilled and tested the third disclosed on January 25, Feet per Day (MMSCFD) with a WellHead Flowing, production in due course after

The well shall be put on

53,59%

HBL: Tekken 8 Women's Gaming Tournament LAHORE: Konnect by ular game 'Tekken'.

rm for women gamers in significant milestone for country.

UIN: 0111429

empower women in the Marketing

Labore to showcase their HBL. By providing equal. Commenting on the initial role in shaping the fisture of skills and passion for the pop-opportunities, HBL seeks to trve. All Habib, Chief Esports in Pokistan."—PR.

HBL expands its presence. The tournament takes place: Exports industry and level the Communications Officer-into the world of Exports with on 20 April 2024 and wel-playing field. It demonstrates: HBL, said, "Gaming is no the launch of Tekken 8 comes enthusiastic women the Bank's commitment to longer a boys' club. A Women's Gaming games from the city to com-connecting with Pakistan's remarkable 23% of Pakistan's Tournament. This exciting pete. The tournament is pow-initiative, under the borner of cred by KiN and Roptr. fostering a more inclusive women. With Esports boom-Aur Khelo', provides a plat. This tournament marks a Esports scene within the ing as a subculture, Konnect

open market or acquired through a negotiated

Number of shares already held by the Acquirers along with the date(s) of acquisition.

Also state whether it was purchased through

Details of any existing holding of voting rights in the Target Company No of shares held % of shares held Wilmar Pakistan HoldingsPte. Ltd.("WPH Unity Wilmar Agro (Private) Limited ("UWA") 166.153.085 13.92%* Mr. Muhammad Farrukh ("Farrukh") 120,855,029 10.12%* Ms. Fehmida Amin ("Fehmida")

639,908,184

*WPH has a direct shareholding interest of 21.74% and an indirect shareholding interest of 7.23% (through its 52% stake in UWA) in the Target Company.

*Farrukh has a direct shareholding interest of 10.12% and an indirect shareholding interest of 1.67% (through his indirect stake in UWA) in the Target Company.

* Fehmida has a direct shareholding interest of 7.82% and an indirect shareholding interest of 2.79% (through her indirect stake in UWA) in the Target Company.

-		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	T 7					
ı	Name	Date of acquisition	Purchase through					
ı	Wilmar Pakistan HoldingsPte. Ltd.	Please refer to Appendix A	Please refer to Appendix A					
ı	Unity Wilmar Agro (Private) Limited	Please refer to Appendix B	Please refer to Appendix B					
ı	Mr. Muhammad Farrukh and Ms. Fehmida Amin have both purchased shares of the Target							
1	Company from time to time through	uch the open market and th	a nagotiated deal me					

Company, from time to time, through the open market and the negotiated deal market beginning from 31 December 2017 (in the case of Mr. Muhammad Farrukh) and 20 May 2021 (in the case of Ms. Fehmida Amin).

Minimum level of acceptance, if any. No minimum level is fixed

3.1 Justification for the offer price

acquired through the public offer

Form of consideration for the shares to be | Shares will be acquired against cash payment via Pay Order / Bank Draft

Total amount of consideration to be paid for the shares to be tendered during the public offer

(assuming full acceptances) Whether the shares of the Target Company are

frequently traded or infrequently traded in the light of criteria prescribed in regulation 13 of these regulations

Justification for the offer price for the shares of the Target Company, in the light of criteria contained in regulation 13 of these regulations

277,070,908 sharesxPKR 24.89 per share = PKR 6,896,294,900/- (Pak Rupees Six Billion,

Eight Hundred and Ninety-Six Million, Two Hundred and Ninety-Four Thousand and Nine Hundred Only).

The shares of the Target Company are 'Frequently Traded' on the Pakistan Stock Exchange

Since the shares of the Target Company are frequently traded as per the Regulations, the price to be offered to the public should be the highest amongst the following prices:

The highest price paid by the Acquirers for acquiring the voting shares of the Target Company during the 180 days preceding the date of Public Announcement of Public Offer: PKR 24.20/share

The weighted average share price of the Target Company on the securities exchange during the 180 days preceding the date of Public Announcement of Public Offer: PKR 24.89/share

The weighted average share price of the Target Company on the securities exchange during 28 trading days preceding the date of public announcement of intention and only those days shall be taken into account on which the shares of the Target Company have been traded: PKR 23.09/share

3.2. Financial Arrangements

Disclosure about the security arrangements made in pursuance of Section 123 of the Act,

Disclosure about the adequate and firm financial resources to fulfill the obligations under the

A statement by the Manager to the Offer that the manager to the offer is satisfied about the ability of the Acquirers to implement the public offer in accordance with requirements of the Act and

Six Billion, Eight Hundred and Ninety-Six Million, Two Hundred and Ninety-Four Thousand and Nine Hundred Only), to be issued by Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited in favour of the Manager to the Offer The Acquirers have made adequate financial arrangements for the fulfillment of their

Arif Habib Limited, appointed as the Manager to the Offer, is satisfied about the ability of the Acquirers to implement the Public Offer in accordance with the requirement of the Act and the Regulations. Moreover, Arif Habib Limited has also issued a due diligence certificate

obligations under the Public Offer.

in this regard.

these Regulations PROCEDURE FOR ACCEPTANCE AND SETTLEMENT

Detailed procedure for acceptance of offer by shareholder of the Target Company

- 1. In order to accept the Public Offer, the shareholders are required to send the letter of acceptance (attached to the offer letter), duly completed and signed, along with the requisite documents (as set out below) to the Manager to the Offer, at its registered address i.e., 2nd Floor, Arif Habib Centre, 23, M.T. Khan Road, Karachi, Pakistan on or before 5:00 pm on June 12th, 2024. Please ensure that with the letter of acceptance, all the required information is provided, including the number of shares to be tendered.
- 2. In the event that the letter of acceptance and the requisite documents are delivered within the stipulated time, the Manager to the Offer will issue confirmation of the receipt of
- Receipt by the Manager to the Offer by the closing date of the duly completed and signed letter of acceptance along with the required documents will constitute acceptance of the
- Public Offer. 4. Completed acceptance forms, once submitted, cannot be revoked by shareholders selling
- in the Public Offer. 5. Copies of the acceptance form shall also be available at the offices of Arif Habib Limited (address provided below) or on the website: https://www.arifhabibltd.com
- 6. The Public Offer will remain open for acceptance for seven days starting 0900 hours PST on June 6th, 2024 to 1700 hours on June 12th, 2024 (the "Closing Date"). Acceptances received after working hours on the Closing Date shall not be entertained and the Offer period shall not be extended.

The letter of acceptance must be accompanied by the following documents:

For Individual Applicants: An attested copy of Computerized National Identity Card original shares certificates and duly executed transfer deeds along with the duly completed and signed authorization to split share(s) certificates letter for (physical shares only), and copy of CDC transferred slip submitted with CDC investor account services (for CDC shares

For Corporate Applicants: A certified copy of the Memorandum and Articles of Association, a certified copy of certificate of incorporation (and for public companies, certificate of commencement of business), certified copies of Computerized National Identity Card of signatories, a certified copy of the board resolution authorizing persons to sell the shares with specimen signatures of such authorized persons, original share certificates and duly executed transfer deeds along with the duly completed and signed authorization to split share certificate(s) letter (for physical shares only), copy of CDC transfer slips submitted

with CDC investor account services (for CDC shares only). Any letter of acceptance furnished by the shareholder(s) without the requisite documents may be rejected by the Manager to the Offer as being incomplete and invalid.

The acceptance by the Acquirers of the shares tendered by the selling shareholders and payment of the offer price is subject to the following conditions

· The Commission or any other competent authority having no objections to any of the provisions of the Public Offer;

The payment for the shares does not contravene any section of the Foreign Exchange Regulations Act, 1947 and the Foreign Exchange Manual of the State Bank of Pakistan, The letter of acceptance being duly completed and signed along with the required documents and submitted to the Manager to the Offer on or before the Closing Date;

· The tendered shares being verified by the Target Company; and · The Acquirers not withdrawing the Public Offer in accordance with the provisions of the

Upon receipt of duly filled acceptance form along with the requisite documents, the Manager to the Offer will send written acceptances of the tender along with bank drafts / pay orders in favour of the shareholder as payment for such shares to the selling shareholder within 10 (ten) days of the closing date of the acceptance period. No interest, mark-up, surcharge or other increment will be payable for any cause or reason on the aggregate price for the shares purchased by the Acquirers from any selling shareholder for any cause or reason.

Details of the CDC account in which shares are on acceptance during the acceptance period

CDC account holders shall follow the procedure set forth above, as applicable. Additionally, the CDC account holders must transfer these shares to the CDC account of the Manager to the Offer in accordance with the following details and to provide the CDC transfer slip to the Manager to the Offer, with respect to transfer of shares:

CDC Account Title: Manager to the Offer (Unity Foods Limited) CDC Participant ID:06452

	Transaction Reason Code: UIN # WEHL000002568UAE - For Intra Account - A021
	- For Inter Account - P015 Shareholders with physical share certificate(s) are required to provide the physical share certificate(s) along with duly verified transfer deed(s).
5. STATEMENTS BY THE ACQUIRERS	
Statement by the acquirers for assuming responsibility for the information contained in the document	The Acquirers / Directors of the Acquirers (in the case of Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd. and Unity Wilmar Agro (Private) Limited) assume responsibility for the information contained in this document.
A statement by the acquirers to the effect that each of the Acquirers including persons in concert, if any, will be severally and jointly responsible for ensuring compliance with the Act and the Regulations	The Acquirers assume responsibility for ensuring compliance with the Act and the Regulations.
A statement by the acquirers that the public offer is being made to all the shareholders who have voting shares of the Target Company and (except the persons acting in concert with Acquirers) whose names appear in the register of shareholders as on the date of book closure	The Acquirers confirm that this Public Offer is being made to all the shareholders who have voting shares of the Target Company (except the persons acting in concert with the Acquirers) and whose names appear in the register of shareholder as on the date of book closure to be announced by the Target Company for this purpose.
A statement by the acquirers that all statutory approvals for the public offer have been obtained	The Acquirers confirm that all statutory approvals for the Public Offer as required under the Act and the Regulations have been obtained.
Disclosure as to whether relevant provisions of the Act and the regulations have been complied with	The Acquirers confirm that all relevant provisions of the Act and the Regulations have been complied with.
A statement to the fact if any director(s) of the acquirers is also a director on the board of directors of Target Company	Ms. Lie Hong Hwa, a director of Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd. and Unity Wilmar Agro (Private) Limited is also a director of the Target Company. Mr. Muhammad Farrukh, a director of Unity Wilmar Agro (Private) Limited is also a director of the Target Company. Save as set out above, none of the directors of the Acquirers are directors on the Board of the Target Company.
A statement by the acquirers as to whether or not any voting shares acquired in pursuance to the public offer shall be transferred to another person and if that is the case the names of such persons shall be disclosed	The Acquirers confirm that voting shares acquired in pursuance of the public offer are not intended to be transferred to any other person except as may be transferred to the nominees of the Acquirers to be appointed/co-opted on the board of the Target Company.
The foregoing information and copies of the Letter	er of Acceptance shall also be available at www.arifhabibltd.com.

All the queries and correspondence relating to this Public Offer should be addressed to the Manager to the Offer at the following address:

Address Arif Habib Centre, 2nd Floor, 23, M. T. Khan Road, Karachi, Pakistan

For and on behalf of Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd.

Lie Hong Hwa Director

For and on behalf of Unity Wilmar Agro (Private) Limited

Muhammad Farrukh

Muhammad Farrukh CNIC: 42201-9556701-7

Fehmida Amin

CNIC: 42201- 8315962-2 Dated: April 17th, 2024

	APPENDIX A		
	Wilmar Pakistan Holding Pte limited		
Date	Purchase Through	Rate	No. of Shares
Sep-20	3rd Right Share Subscription of renounced Shares	10.00	70,155,000
Feb-22	4th Right Share Subscription -Right Entitlement	27.00	14,114,984
Feb-22	4th Right Share Subscription - Shares issued from directors and substantial shareholder		
	renunciation	27.00	58,939,844
Feb-22	4th Right Share Subscription- Other shares subscribed from relatives of directors'		
	renunciation	27.00	38,801,695
Feb-22	4th Right Share Subscription - Shares subscribed from unsubscribed portion of		
	general public	27.00	58,585,810
05/06/2022	SecondaryMarket	24.40	1,889,549
05/09/2022	Secondary Market	22.99	1,000,000
05/11/2022	Secondary Market	21.70	1,500,000
06/07/2022	Secondary Market	20.00	887,638
14/06/2022	Secondary Market	19.87	311,150
30/06/2022	Secondary Market	20.00	123,388
07/01/2022	Secondary Market	20.00	1,371,633
07/06/2022	Secondary Market	19.97	1,448,890
13/07/2022	Secondary Market	19.80	1,091,416
18/07/2022	Secondary Market	19.70	2,000,000
19/07/2022	Secondary Market	19.40	1,500,000
18/11/2022	Secondary Market	16.79	4,525,000
21/11/2022	Secondary Market	17.00	100,000
28/11/2022	Secondary Market	16.48	1,000,000
29/11/2022	Secondary Market	16.70	189,953
	Total		259,535,950

APPENDIX B

	Unity Wilmar Agro (Private) Limited		
Date	Purchase Through	Rate	No. of Shares
23/05/2019	Secondary Market	10.00	59,905,187
23/07/2020	Secondary Market	10.00	103,260,690
23/12/2022	Secondary Market	14.09	418,451
28/12/2022	Secondary Market	14.10	375,157
29/12/2022	Secondary Market	13.99	125,000
01/03/2023	Secondary Market	14.00	262,192
01/04/2023	Secondary Market	14.00	650,000
24/02/2023	Secondary Market	13.00	257,408
27/02/2023	Secondary Market	13.00	418,337
28/02/2023	Secondary Market	12.90	181,712
03/01/2023	Secondary Market	12.65	55,079
03/02/2023	Secondary Market	12.70	243,872
	Total		166,153,085

روزنامہنوائے وقت(4) 19 ایریل 2024ء

سيكيورشيزا يكث،2015 تىبسىتىنشل ايكوئزيش آف دوٹنگ شيئر زايند ٹيک او درز) ريگوليشنز ،2017 كے تحت ولمريا كستان ہولڈنگز يي ڻي اي لميڻڙ؛ (iii) جناب محمر فرخ؛ اور (iv) محترمهٔ نهمیده امین (مشتر كهطورير"حصول كنندگان) کی ظرف سے یونیٹی فو ڈ زلمیٹڈ (دی" ٹارگٹ کمپنی") کے 277,070,908 شیئر ز (جوشیئر ہولڈنگ انٹریسٹ کا%23.20 بنتا ہے)اور جوائنٹ کنٹر ول حاصل کرنے کی پبلک آفر کااعلان عام صول کنندگان اورسهسڈریز، اگرکوئی ہوئے بینگ ڈرافش یا قرضوں یااس قتم کی کسی دوسری یہ بات انچی طرح سے بچھ لی جائے کہ پلک آفری دہتاہ پر سیکھ رٹیز اینڈ اینچیٹو کمیشن آف پاکستان (دی" ممیشن") کوچیش کرنے سے کی بھی طرح بھی پیش جھنا چاہینے اور نہ یہ باور کرنا چاہیئے کہ اسے کیئر کر دیا گیا ہے، جھان جین کر کی گئی مقروضيت ماريج مهارجز بإدوسرى مادى امكانى ذمدداريون كاتفييلات ادرا كرايك كوتى ذمددارى ہ یا میشن کی طرف سے اے منظور کرلیا گیا ہے۔ کمیشن کو پیوستاہ براس امرکور میلنے کے ایک محدود متعمد کے لیے بیش کی گئی ہے کہ آیااس میں جواسکاو ڈرزشال میں دوما مطورے کافی ہیں اور قانون ا نسا اطول سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اس يۇقى دلىرا ئىكرو (يرائيومەك) لىيلىز نیں ہے تو اس بارے میں بیان خرورت کا مطلب اس پیک آفرے بارے میں درست فیصلہ کرنے کے لیے یونی فوز آمین کر شیر ہولڈرز کو جوات دینا ہے۔ کمیشن، فرقة حصول کنندگان اور زیمین کے مانیا سخام، جس کے شیئر دا کنٹرول حاصل کرنے کی تجویز ہے اور شد کوئی تیں ان بيانات يا اس وستاو ير يمن فا بركروه خيالات كروست بون في كوفي قدرارى ليتا حديد بات يحى والمضح طور يرجح في جاع كداس وستاو يز يش اتمام متعلقة معلومات كروست اوركافي بوف اورؤ سكاو يزر كيفيا وي طور يرجعول ii. جاب مرفرخ کنندگان و مدوار بین۔ امید ہے کہ کہ آخرے میخر، عارف جیب کمینلہ اس بارے میں متاسب احتیاط کا مظاہرہ کریں گے کہ حصول کنندگان میج اور متاسب اشاؤ میں اپنی و مدواری پوری کریں، آخر کے منتجر نے سکیورٹیز ایک نے 2015 كوني فين ("ACT") كمطابق 2020 11 إلى ل 2024 كوكميش كومناسب احتياط كالموقليث ييش كياب-مزفهميدوامين كوفي شيس صول کنندگان کے مالی مشیر (i) ولمريا كتان مولدُقَّز في في اى لميشر صول کنندگان کی مخضر تاریخ اور کاروبار کے بڑے شعبے (عمینی کی صورت میں) مندرجہ ذیل ہیں: صول كنندگان كافخفرتاري اوركاروبارك بزيشهر (اگرحصول كنندگان كميني بير) حصول بذراييه فهت في شيئر شيئرز كى تعداد . ولمريا كتان جولدُ تكز بي في الى لمعيندُ کوئی شیں کوئی نیس كوني نبيس معامده (معامدات) ولرياكتان جولةُ لكر في اي ليندُ 30 جنوري، 1997 كوسنگايور من قائم كي تي قلي اور بيدامرا تذبيش لميند ("WIL") كي تكمل ملكيتي صول کشدگان کے گاروبار کے اہم شعبے اور متعلقہ تجربہ (حصول کشدگان کے ایک فرو ہونے کی 218,886,017 شيترز يبك آفر 24.89 ياڪاني روپ 18.33% جيدُري ب، يكني سنگا يوريجيني شراسليد بـ - WIL اوراس كا كروپ كمينيول ("Wilmar roup") كى كاروباري سرارميول يوشش ولمرا مجرو (پرائيويث) لمينز يس يام آس كى كاشت ،آس سيد كرشيك، خورتى تيل كي صفائى، فلا راور رأس ملك، شوكر ملك اينذ ريفا مُنك، كنز يوم براؤكش كي ميعو شيئرز كى تعداد فهت في شيخ حصول بذريجه يجر تك، تيارشده كفاف بمغرل فين يراوكش الميشني فيلس اوليو تيميكان اليوزيل اورفر ثيارتورز اورفوز يارك آبريتش شال كوفئ تبين کوئی شیں کوئی فیس معامده (معامدات) يں۔ دامر گروپ كـ 1,000 سے زياد و مينونيكي رنگ باش اورايك وسن اسرى يوشن بيت ورك ہے جوجين ، جدارت الله و نيشيا اور 50 بيك آفر 24.89 پاڪتاني روپ 0.23% 2,770,709 ويكر مكون اورعلاقون برمحيط ب- ولركروب اسية برنس ماؤل كرييان ، المكر يشن اورلا بسنيكل آسانيون كرؤ ريع وبليو يجين ك جناب ثمرفرخ رقدم پر مارجنز قال سکتا ہے، اس طرح آپریشنل مطابقت اوراداکت کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ تقریبا 100,000 افراد کی کثیر القوی فيت في شيئر شيئرز كى تعداد حصول بذريعه رک فورس کی مدد سے ولمر گروپ اپنے عالمی آپریشنز سپانی چین اور آبادیوں میں پائیداری پڑھل کرتا ہے۔ كوئي نبيس کوئی نبیس كوني فهيس معامده (معامدات) i. این ولرا نگرو (یرائیوسک) لمینژ يلكآفر 24.89 پاکستانی روپ 52,643,473 شيترز 4.41% وی ولرا میرو (برائورن) لمیشا، پاکتان میں زیاد وزملی کراپ آئل سید کرشک اور پراسینگ میں مصروف ب، دو مارکیت کے لي تياداشياء كافريد وفروت كرتاب اورفيم صاف شدو تيل ويكاف كخورتى تيل اوركعانول ي متعلق تمام يراؤكش كاكاروبار حصول بذريعه نيت في شيرً شيئرز كى تعداد كونى نبيس کوئی تبیں معامده (معامرات) عمول كشدگان كے كارو باركي اہم شعبي اور متعلقة تنج بد (حصول كشدگان كفرد جونے كي صورت ميس) مندرجة بل ب 2,770,709 شيئرز پيک آفر 24.89 پاڪتاني روپ 0.23% جناب محدفرخ نارك كميني، يؤي ولمرا يكرو (يرائيويت) لمينذ، يؤي انتريرائز (يرائيويت) لمينذ اورين رج فوة ز (يرائيويت) لمينذ قيت في شيئر شيئرز كى تعداد حصول بذريعه کے چیف ایکر پکٹیو آفیسر ہیں۔ان کا کیر رُاتھر بیا دو دہائیوں پر پھیلا جوا ہاوراس میں قومی ادر بین الاقوامی کے پر فاسٹ مودگ کوئی تبیں كوفئ تبين كوني تين معابده (معابدات) كنز بيمر كذر تيكفر ك فتلف يبلوشال جيران كى مبارت فوفر يراؤكش، زرى بنياد والى كموزيشيز اورجا تورول ك جيارت تك وسيج 24.89 پاڪتاني روپ 277,070,908 شيتزز پیکآفر 23.20% ب،جس میں متنوع عالمی سے مال کاحصول اور پوری دنیا میں اس کی تقسیم کے ذرائع شامل ہیں۔ محترمه فیمیدواین کے پاس وسی کاروباری تجرب جو کموؤیٹیز کی خریدوفرونت اورانو مستمناس میں 15 سالوں رجھیا ہے۔ عول كنندگان كام اور رجيز د عددجد ول ين حصول کنندگان اوران کے ساتھ مل کرکام کرنے والے اسپانسرزیان افراد کے نام اور بے جن کاحصول کنندگان بر کنوول ہے۔ سانسرز / افرادجن كاحسول كنندگان يركنفرول ب مندرجه بين: ولمريا كستان مولدُ تكز في في اى كميشة افرادكانام اورجشر فرينة يوخي ولمرا يكرو(پرائيويث) لمينتُدُ جناب محمد فرخ محتر مه فهمیده امین ولريا كنتان مولدُنگز بي في اي لميندُ ولمرانغرفيشل لميشأر ى اين آئى ى نبر ية: 28 بائيو يولس روز، ولمرائز يشنل، مناكا يور 138568 28 Biopolis روۋ ، ولرانتر پیشنل ، سنگا پور 138568 کوئی تیں ولمريا كستان مولدُ تكربي في اي يۇقى ولىرا يكرو(پرائيويٹ)لىينىڭە يونځ ولمرا يگرو(پرائيويث)لماينله كوفي تبين يۇنى ئادر ، 8C ، بلاك 6 ، ولمرائز نيشل لميندُ* يى اى يى التجاليس، شاہراه فيصل (*ولمرائز ميشل كمينة ولمريا كتان مولدُ تكرني في اى كميندُ مين 100% شيئر مولدُ تك كي كرا چي م يا كستان ما لک ہے،جو بدلے میں ہونٹی ولمرا مگرو(پرائیویٹ) کمپیٹر میں 52 شیئر ہولڈنگ مكان نمبر115/2 ،اسٹريث جناب محرفرن 42201-9556701-الشريت كى ملكيت ركحتى بيديوني ولرا يكرو (يرائيويث) لميندُ من باتى 48% شيتر 29، خيابان محافظ، فيز6، مولڈنگ انٹریٹ کی مالک ہونتی انٹریرائزز (پرائیویٹ) کمیٹٹر ہے۔ DHA ، کراچی ، پاکستان ية: 28 أيو يولس رود ولمرائز فيطنل سنة يور 138568 ركان نمبر R-92 محتر مه فبميدوايين 42201-8315962-2 فيابان رضوان DHA ، فيزاا جابيرفرخ كراچي، پاکستان N/A و بل میں ان افراد کے نام اور سے بیں جنعیں ساتھ ل کرکام کرنے والے سجھا جاتا ہے۔ ى اين آئی ی نبر محتر مه فبميدوا من 42201-8118026-1 جناب صغدر سجاد (اضمیں عمینی کے ڈائز یکٹر کی حیثیت سے بونی ولمر مكان نبر C-4 كاشن اقبال بإك ا يكرو (يرائويث) لميند كساته الكركام كرف والاسجها جاتا صول کنندگان کے ڈائر بکٹرز کے نام اور پتے مندرجہ ذیل ہیں: حصول کنندگان کے بورڈ آف ڈائز یکٹرز کے نام اور پتے مكان غبر C-4 بكش اقبال وبلاك6 مز مناصفدر (انھیں جناب فرفرخ کی بمثیرہ ہونے کی حیثیت نبرڅار حصول كنندگان 42201-9022233-0 .10 پرس جارس کر بینت مريا نستان بولڈنگز کي ٹي اي کسينگر قيام كى تاريخ اوردائر والقيار قيام كى تاريخ 10-13# وى كريت قيام كى تاريخ حسول كنندگان كانام 159019 30 جوري، 1997 ولمريا كنتان مولة تكزيي فى اى كمينله 6 تمبر 2017 يوَقَىٰ ولمرا يكرو (يرائيويت)لمينتر وفلورنس كلوز سزلوديو ليونك قيام كادائزه ماختيار 54959528 قيام كاوائر وماختيار حصول کنندگان کے نام Ms في عك جوا يۇتى دلىرا ئىرو(يرائيويث)لموند 105 يرض جاركس كريسنت ولمريا كنتان مولاتكر بي في أى أى كمايئد سنكا يور 13-13# وى كريت يوَقُ ولرا يَكِرو(پرائيو ياك)لميثلهُ کراچی، پاکستان 1590192 منظورشد واورجاري شده شيئر كعيينل منظورشده اورجاري شده/اواشده شيئر كبيول سنركوك كحون بإنك 35 وكثوريا بإرك روذ مظورشدهم مايي حصول كنندگان كانام اواشده سرماييه منگاليد 266516 ولريا كستان مولذ تكزيي فى اى لميئذ 5,376,984.18 أمريكي ۋالر كو في قيس PKR 2,287,342,500 PKR 2,300,000,000 يوَقُ ولمرا يَكُرو (يرائيويك) لميندُ 11 كنگزميڈروۋ، سشرة ارون اعثر يكو اگرایک سے زیادہ حصول کنندہ ہیں تو ان کارشتہ £ 267964 يۇلار 267964 ولريا كتان مولاً نَكْر بي في اي لمينذ، يوني ولر الكرو (يرائيويث)لمينذ مي 62% شيئر مولدُگ انثريت كي مالك ہے۔ باقي 48% شيئر مولدُگ انثريت كي مليت يوني 🕽 ائر پرائزز(پرائویٹ) کمیٹڈکے یاس ہے۔ مكان فمبر 115/2 استريث نابيرفرن 29،خيابان محافظ، فيز6، جناب عد فرخ ایش انٹر پرائزز (پرائیویٹ) لمیلڈ میں %25 شیئر مولڈنگ ائٹریٹ کے بالک بین اور کمپنی کے چیف ایگر یکٹیو آفیسر ہیں۔ جناب فرخ نارکٹ کمپنی کے مجی DHA، کراچی پاکتان چيف آيگزيکٽيوآ فيسر جي-مكان نبر C-4، كلشن محتر مەنىمىيدە دايين جناب محرفرخ كى دالدە بىن ـ وە يونى اعترىمائزز (يرائيويت)لمينىڭدىس 41.68 شيئر بولۇنگ اعترىپ كى مالك بىن ـ مناب صفدر سحاد اقبال، بلاك 6، كراجي، حصول کنندگان اوران کے ساتھ ل کرکام کرنے والے افراد کے پاس نارگٹ ممیٹی کے پہلے ہے موجود ووٹک شیئز (کی کل اقعداد باكتتان آ) جس کا حصول کننده ما لک ہے یا جس براس کا کنٹرول ہے یااس کا حکم مانا جاتا ہے۔ N/A جناب تحدفرخ لليت من شيئرز كا% ملكيت مين شيئرز كي تعداد ولمريا كتان مولائكز لي في اى لميناز N/A محتر مة بميده امين 21.74% 259,535,950 صول کنندگان کے کم ہے کم پچلے پانچ سالوں کی مدت کی مختر آ ڈٹ شدہ الی تضیلات جمول آ مدنی بڑ چہ فرسودگی ہے اللہ منافع ،انٹریٹ اور کیس، فرسودگی، بیس سے پہلے اور بعد منافع ،کیس کی پروویز ن، ویو پیدھ ز،آمدنی شیئر،نیٹ ("WPH") ورتعه يرديثرن اورفي شيتربك ويليو يوَتْقُ ولمرا يَكِرو (يِراتَيُوسِكُ)لمايئدُ 13.92% 166,153,08 ("UWA") يونى ولرا يكرو(يرا يُويث) لميند (للين ياكتاني روي شن ظاهر كرده) كوائف جاب مرزغ ("Farrukh") 10.12% 120,855,029 2019 2020 2022 2023 محتر منفهميده امين ("Fehmida") 7.82% 93,364,129 آڈٹشدہ آؤث شده آذثشده آؤٺشده آڈٹشدہ 53.59% 639,908,184 كلآمانى * WPH كي ياس ارك ميني من (UWA من اييخ 152% استيك كذريع) 1.74 برادراست شيئر وولد مگ اشريت ادر 7.23 بالواسط شيخ بولد مگ اشريت ب كالزيد 66 47 45 10 7 ہ فرخ کے پاس نار کٹ مینی میں (UWA میں اپنے بالواسط اسٹیک کے ذریعے)، 10.12 ہراہ راست شیتر ہولڈنگ اشریت اور 1.67% بالواسط شیئر ہولڈنگ اشریت ہے۔ (36) 551 99 (1) فرسود کی دانٹریٹ اور تیکس سے قبل آ مدنی • فہیدہ کے یاس نار کٹ میٹی میں (UWA میں استے بالواسط اسٹیک کوریعے)%7.82 براه راست شیئر بولڈنگ انٹریٹ اور %2.79 بالواسط شیئر بولڈنگ انٹریٹ ہے۔ فرسودكي ii) جوان افراد کی ملکیت یا کنفرول میں ہے چھیں حصول کنندگان کے ساتھ مل کرکام کرنے والے جمجا جاتا ہے۔ انزيت اورثيكن 31 42 155 29 ملكيت مين شيئز زكى تعداد فع/(نقصان)قبل از (67) (41)520 93 (7) 7.19% 85,825,221 جناب صفدر تباو ليكس منزحناصفدر 24,258,979 2.03% نفع/(أنصان) بعدار تيكس 390 (67)(42)64 (7) 110,084,200 نیکس کے لیے تصیص * صفور کے پاس ٹارگٹ کینی میں (UWA میں اپنے بالوا مطاسقیک کے ذریعے)%7,19راہ داست شیئر پولڈنگ اعریت اور %2.23 بالوا مطشیر ، بولڈنگ اعریت ب۔ كمائي/(خساره)ني شيئر تضيالات مندرجية عل إلى: حسول کنندگان کے رشتہ مالی سال کے افتاق م کے بعد جاری شدہشیر زی تعداد (سمینی کی صورت میں) (تخلیل شده) صول کنندگان کے گزشتہ مالی سال کے اختتام کے بعد جاری شدہ شیئر زکی تعداد منافع منقسمه في شيئر ولمريا كستان مولاتكزيي فياى أكالينثه منافع منقسمه كى ادائيگى يغثى ولمرا يكرو(يرائيويدك) لميثله پلک آ فر کے اعلان عام سے پہلے کے دوبالی سالوں کے دوران جھول کنندگان گی تنظیم تو کی تفسیدات نيث ورتحة برريترن ولمريا كستان ہولڈنگز بی ٹی ای المیلاثہ پلیک آخر کے اعلان عام ہے پہلے دوسالوں کے دوران کمپنی پین شیئر ہولڈرزیاشیئر ہولڈ تک انٹریٹ في شيئر بك ويليو 10 15 10 36 19 ميں کوئی تبدیلی ہوئی 2,221 2,230 5,632 4,259 3,533 كل ايكونن ii. يۇنى ولىرا تىرو(پرائىدىك)لميىند 352 412 3,804 539 583 كل ذمه داريال پیلک آ فرے اعلان عام سے پہلے دوسالوں کے دوران ممینی میں شیئر ہولڈرز یاشیئر ہولڈ لگ اعزیت كرنث لأتبلغيز 352 412 3,804 539 583 ين کوئی تيد يلي شيس جو کی نان كرنث لأكبلشيز iii. جناب محرفرخ كلانات 2,573 2,642 11,987 4,797 4,116 اطلاق فيس موتا 1,728 كرنث الثاثي 1,723 4,481 1,286 1,288 ١٧. مزفهميده امن اطلاق نيس موتا 851 913 7,507 3,512 2,828 نان كرنث الاث

فرونت ہوگی:23.09 یا کتنانی روپے اشیئر

اورنوسوصرف الماليت كى الك بينك كارتى كاانتظام كياب جواسيندرد

من میں مناسب احتیاط کا ایک شفیلیٹ بھی جاری کیا ہے۔

جارارد میک (پاکتان) لمیشری طرف ے فرے میخرے حق میں جاری کی جائے گی۔

آ فر معيفري حيثيت مقرر كرده عارف حبيب لميند، اليك ادرر يكيليشنز ع تقاضون عصطابق

پیک آ فر رقمل درآ مدے بارے میں حصول کنندگان کی اجابت ہے مطمئن ہیں۔اس کے علاوہ، عارف حبیب لمیٹڈ نے اس

2021

-227

-170

-170

-0.04

3.4

15,150

32,893

32,893

48,043

26,261

21,782

آؤثشده

2022

-337

-91

-246

-337

-337

-0.07

0

3.3

43,934

43,934

58,747

9,080

49,667

کمپنی کے کئی ڈائز بکٹر کوعبدے ہے محروی یا حصول کے سلسلہ میں بصورت دیگر معاوضے کے طور بردیا جائے گا

پلک آفر کے اعلان عام کی تاریخ ہے دوسال پہلے کیے جانے والے ہر مادی معاہدے کی تفسیلات، وہ معاہد خمیں

جوعام کاروباری طریقے ہے کیا گیا ہویا کمپنی کی طرف سے کیے جانے کا ارادہ ہو

يانصيات كاكر حصول كندكان كالمشيد معنى (كمينون) كي بورة آف دائر يكرز بردائر يكرم

ان اخبارات كام ماريخي اورايد شرجن من بيك اراد كا عان عام شائع مواقعا

ہے، فی شیئر آفر پرائس اور حاصل کیے جانے والے شیئرز کی چیعن آف کنسڈریشن کاطریقہ

نار گٹ مینی سے شیئرزیا کنٹرول حاصل کرنے کی وجوہات

تمینی کے طور پر برقر ارد ہے گی یانبیں

قبوليت كي كم از كم سطح وأكركو في بهو

: آفريرائس اور مالى انتظامات

جائي ع (ممل قبوليت بجھے ہوئے)

پلک آفر کے ذریعے حاصل کے جانے والے شیئرز کی کنسڈریشن کاطریقہ

متوار خريد وفروضت ہوتی ہے يا بھی بھار خريد وفروضت ہوتی ہے

كنسةريش كى كل ماليت جوان شيئرز كے لياداكى جائے كى جو پلك قر كےدوران شيندر كيے

ان ريكيليفنز كريكيفن 13 من تجويز كرده طريقه وكارك روشى من كيانارك كمين كشيرزك

ان ریکولیشنز کے دیکولیشن 13 میں شامل طریقہ وکاری روشنی میں ٹار کٹ کمپنی کے شیئرز کی آخر پرائس کا

ا یکٹ، 2015 کے سیکٹن 123 کے مطابق سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں ڈسکلوثرر

پلک آفر کے تحت و مداریاں پوری کرنے کے لیے کافی اور متحکم الی دسائل کے بارے میں وسکلو ور

آ فرے میٹر کی طرف سے یہ بیان کہ آفر کا میٹر ایک اوران ریگولیشنز کے قاضوں کے مطابق پلک

آفريمل درآ مے ليحسول كتدگان كى الميت كے بارے من مطمئن ب

3.1 آفريائي كاجواز

3.2 مالى انظامات

ان شیئرزی تعداداور فیصد جوحصول کنندگان کی طرف سے معاہدے کے ذریعے ،اگرکوئی جو، عاصل کرنے کی تجویز

ار کے کہتی لے متعقبل کے منصوبے کے بارے میں تفسیلات، بشمول یدکہ آیا حصول کے بعد اراک کمپنی اسٹیڈ

ار نارکٹ کھنی کی موجودہ انتظامید، پروموٹرز یا موجودہ شیئر جولڈرز کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے تو اس کوئی شین

معامره (معامدات) کے اہم پہلوؤں کا جائزہ فروخت کنندہ (کنندگان) کا نام فروخت کنندگان کے مکمل

ر بھی بتا کیں کہ بیادین ماکیٹ کے ارکیے خریوے گئے تھے پابات چیت سے مطے پانے والے سووے کے ارکیے

شروط بيك آفرى صورت مي قبوليت كي كم از كم سطى كى وضاحت كري يعني شيرز كى تغداداور فيصد

يتيد معابد _ (معابدات) كفريتون كتام، اواليكي كاطريقه ، كاراوراجم اضافي معلومات،

صول کنندگان کی ملکیت میں پہلے ہے موجو دشیئرز کی تعداد مع حصول کی تاریخ (تاریخیں)

صول کشدگان اور ٹارگٹ کینی کے ڈائر بیٹرز کے درمیان کی ایے فائدے کے بارے میں کی معاہدے یا تظام کی تغییات، جوٹارگٹ

آڈٹشدہ

كوائف

كلآمدني

كلفرچه

فرسودگی

انتريث اورقيكس

نفع/(نقصان) قبل از

نفع/(نقصان) بعدازتیکس

ليس كے ليے پردويران

كمائى/(نقصان) فى شيئر

منافع مطسمه كى اواليكى

نيث ورتحه برريغرن

فی شیئر بک ویلیو

كل ذمه داريال

كرنث لأتبلغيز

نان كرنث لأتبلنيز

كلاقائه

كرنث ا ثاثے

نان كرنث اثاثي

پېک آ فرکی تفصیلات

كل الكونتي

(حمليل شده) منافع منقسمه فى شيئر

فرسودگی ،انٹریٹ اورٹیکس سے قبل کمائی

	المعارض الأرامة المعارض المعار	مولة تَكُز بِي فَى اى لميشِرُ (بزارون امر	ملياكتان
2018	2019	2020	وري حان
آڈٹشدہ	آڈٹشدہ	آ ڈٹ شدہ	
-16	0 -1	-91	
-16	-1	-12	
0	0	0	
-16	0	-80 -91	
-10		-21	
-16	- 4	-91	
0.00	0.00	-0.02	
0.00	0.00	-0.02	
0	0	0	
0	0	0	
2.0	2.0	4.2	
9,135	9,135	18,862	
11,286	11,286	15,617	
11,286	11,286	15,617	
0	0	0	
20,421	20,421	34,480	
9,136 11,285	9,136 11,285	9,155 25,324	
5 (5 p. 7-7-1 and 1-1-1)	Ú	م کی تفصیلات، جونار گٹ کوئی فیر	
		کونیس کونیس	ئےگا ابدہ تیں
		وي دل	الإهدا
موجوده ڈائز یکٹرشیں	لىڭىدىمىنى(كىپنوں) بىل	عم	
*****************	يۇنى ۋۇ زلىيىنە	جناب <i>ۇ</i> ۆخ	

	کوئی شبیس	محتر مدفهميده امين	
ئے وقت" میں20 مارچی، 2024	" برنس ريكارڈر" اوراردواخبار" نوا۔	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T	
		شائع ہوا تق N/A	. کی تجویز
		WA	25.00
ارے کے طور پر ٹارگٹ کینی میں ا	انات اور افزائش پراپنے یقین کے اش		
المصطور مرقائم كبايي	وياكنتان مين أيك متناز أشميل فوذ سميخ	مشتر کہ ملکیت بڑھانا جا ہتے ہیں۔ حالہ پرسوں میں ٹارگٹ ممپنی نے خود	
ں۔ مان بلیئر مانے کے لیے ٹارگٹ م	رِّ مِنْ فَوْدُ اور متعلقه شعبون مِين اليك قائد	حسول کشندگان ٹارگٹ نمپنی کوعلاقے	
		کی انتظامید کی سوج میں مددگار ہیں۔ وہم سمینہ جد و سر مرسسل	عمینی اسائیڈ مینی اسائیڈ
دانہ پلیٹر ہتائے کے لیے ٹارگٹ مج	به عمول ایندگان کی سوی : د مین فود اور متعلقه شعبول میں ایک قائر	ٹارگٹ کمپنی میں سرماییکاری کے لیے حصول کشندگان ٹارگٹ کمپنی کوعلاتے	، الاستئيد
نونی کی حیثیت کوتبدیل کرنے کا کو	وحسول كنندكا غارمت تمينى كسشيذ		
		اراده نبین رکھتے۔	
		N/A	
		كونى نيين	ہے تو اس اسے مکمل
			020
		Comments	
مَلَيت مِين شَيْرُ زُكَارُ ٧	اموجوده ملیت فی انصیلات: ملکیت میں شیئرز کی تعداد	ٹارگٹ کمپنتی میں ووٹنگ رائنٹس کی کسی نام	
			كاريع
21.74%	259,535,950	ولمر يا كستان جولانگز يى ئى اى لمديند ("WPH")	
		(WFH)2500Q	
13.92%			
	166,153,085	يونڻ ولمرا يگرو(پرائيويث) اين سندسين	
***************************************	166,153,085	يونی دلمرا نگرو (پرائيويث) لميشر"UWA")	
10.12%	166,153,085 120,855,029	ليط("UWA") 	
10.12%		ليظ("UWA")	
7.82%*		ليط("UWA") 	
***************************************	120,855,029	لوشر("UWA") عامب الفرق ("Farrukh")	
***************************************	120,855,029	لیشر("UWA") جناب جموقرخ ("Farrukh") محتر مدفیمید دایمن ("Fehmida")	
7.82%* 53.59%	93,364,120 639,908,184	لبيشر("UWA") جناب مجوفرخ ("Farrukh") محرّ مدفيميدوا بين ("Fehmida") کل	
7.82%* 53.59% غادر نع 21.74% براورات	120,855,029 93,364,120 639,908,18 ناس کے 152% اسفیک	لبيشر("UWA") جناب مجوفرخ ("Farrukh") محتر مدفيميد دامين ("Fehmida") کل کارگ	
7.82%* 53.59% کور نے 21.74% برادرات نے 10.12% برادرات	120,855,029 93,364,120 639,908,18 4 يالواسط شير تبولزگ انتريت پالواسط شير تبولزگ انتريت ہے۔ بالاواسط استيک ئے قدر	لبوشر ("UWA") جناب محرقرخ ("Farrukh") محتر مدفهم بدوایین ("Fehmida") کل 4 * نارگت کمچنی میں WPH کا (A شیئر مولذنگ انفر پسٹ اور %7.23	
7.82%* 53,59% کور نے 21.74% براہ راست شے نے)%10.12% براہ راست شے	120,855,029 93,364,120 639,908,184 بالواسط شيئر جولذگ انفريست ہے۔ بالواسط شيئر جولذگ انفريست ہے۔ بالواسط شيئر جولذگ انفريست ہے۔ بالواسط اسليک کے قبل الواسط اسليک کے قبل	لبوشر ("UWA") جناب مجوفرخ ("Farrukh") محتر مه فبهيدوا بين ("Fehmida") عل WPH كل شيئر مولد مگل اخير يسك اور WPH كا (A شيئر مولد مگل اخير يسك اور WPH كا (A جولد مگل اخير يسك اور WPA الالالا	
7.82%* 53,59% کور نے 21.74% براہ راست شے نے)%10.12% براہ راست شے	120,855,029 93,364,120 639,908,18 پالواسط شیئر مولانگ انٹریٹ پالواسط شیئر مولانگ انٹریٹ ہے۔ مائٹیئر مولانگ انٹریٹ ہے۔ مائٹیئر مولانگ انٹریٹ رکھتے ہیں۔ انٹین اپنچ پالواسط اسٹیک سے ڈر	لبوشر ("UWA") جناب مجوفرخ ("Farrukh") محتر مه فبهيدوا بين ("Fehmida") عل WPH كل شيئر مولد مگل اخير يسك اور WPH كا (A شيئر مولد مگل اخير يسك اور WPH كا (A جولد مگل اخير يسك اور WPA الالالا	
7.82%* 53,59% کور نے 21.74% براہ راست شے نے)%10.12% براہ راست شے	120,855,029 93,364,120 639,908,18 پالواسط شیئر مولانگ انٹریٹ پالواسط شیئر مولانگ انٹریٹ ہے۔ مائٹیئر مولانگ انٹریٹ ہے۔ مائٹیئر مولانگ انٹریٹ رکھتے ہیں۔ انٹین اپنچ پالواسط اسٹیک سے ڈر	لبوشر ("UWA") جناب مجوفرخ ("Farrukh") محتر مدفيميدوايين ("Fehmida") على WPH كل شيئر بولد تك انتر يسك اور 20% 7.23 جولد تك انتر يسك اور 7.23% جولد تك انتر يسك اور 1.67% بولد تك انتر يسك اور 2.0% ايا الوا استر يسك اور 2.7% كا بالوا	
7.82%* 53.59% کوزیائے گا،21.74% براہ راست شیر بنے گا،10.12% براہ راست شیر بولڈگا جریم برراید	120,855,029 93,364,120 639,908,184 پالواسط شیخر جولانگ انٹریٹ ہے۔ یا تین اپنے بالواسط اسٹیک کے قرب ماشین جو پالواسط اسٹیک کے قرب ایش اپنے پالواسط اسٹیک کے قرب ایش اپنے پالواسط اسٹیک کے قرب ایش اپنے پالواسط اسٹیک کے قرب فرجولانگ انٹریٹ جیسے ہیں۔ حسول کی تاریخ	لبوشر ("UWA") جناب محد قرخ ("Farrukh") محتر مه فبهيده المين ("Fehmida") عل المسلم علي علي المسلم كا (A شيئر موافد مك الناريث اور 20,33 من (WA) * ورشد اور 1,60% كا بالوا اعتر يدث اور 2,70% كا بالوا ساشيمة المام	
** 7.82% 53,59% گاور نے)%21.74 براہ راست نے)%10.12 براہ راست شیئر ہولڈ کے 7.82% براہ راست شیئر ہولڈ	120,855,029 93,364,120 182 ئيل اس كي 25% استنگ بالواسط شيئر جولزگ استنگ ك بالواسط استنگ ك در مطاشير جولزگ اشريت ك در مطاشير جولزگ اشريت ركھتے ہيں۔ 1 ميں اپنج بالواسط استنگ ك در ا	لميشر ("UWA") جناب مجر قرخ "Farrukh") محتر مه فبعيده امين ("Fehmida") کل 4 * نارگ ميني شي WPH کار A شيئر بولدنگ امتر بيد اور %7.23 * فرخ نارگ ميني شير (L67 يالوا بولدنگ امتر بيد اور %2.12 بالوا امتر بيد اور %2.72 کا بالوا ساشيد ولري کشان جولدنگرز يما	
** 7.82%* 53.59% کوزر م کا 21.74% براه راست شیخ جولارگا چه (راست شیخ جولارگا خریم بزرایی برائے میریانی مشکله A	120,855,029 93,364,120 93,364,120 639,908,184 پالواسط شینر تولانگ انٹریٹ ہے۔ مطافینز تولانگ انٹریٹ ہے۔ ایش اپنے پالواسط اسٹیک کے ڈر اپنے پالواسط اسٹیک کے ڈر اپنے پالواسط اسٹیک کے ڈر اپنی اپنے پالواسط اسٹیک کے ڈر خصول کی تاریخ محسول کی تاریخ کیمنے	لبوشر ("UWA") جناب محرقرخ ("Farrukh") محتر مدفه بيده ايمن ("Fehmida") عل الركت محتوفي عمل A) لا 4 شيئر بولانگ انفريست اور %7.23 با الوا عنواند نگ انفريست اور %7.23 با الوا اعتر بيست اور %7.25 كا بالوا ساطيمة اعتر بيست اور %7.25 كا بالوا ساطيمة ولمريا كمتان بولدنگرز برا	
53.59 53.59** کور م کا کا 21.74* براه راست شیخ براه راست شیخ براندگ چه برای دراست شیخ براندگ تر به برای ملک ملک م	120,855,029 93,364,120 639,908,18 4 الما شير بولانگ انتريت ہے۔ الم الم ني بالواسط اسٹيک کے در اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل	ليوشر ("UWA") جناب محمد فرخ "Farrukh") محتر مه فبهيده امين ("Fehmida") عل الركت محتون مين WPH كا (A شيئر مولد مكان القريب اور 2.73% " ورخ ناركت محتون مين (LCW كا الإدار 1.67% " فبهيده ناركت محتون مين (LCW) بالوا اعتر يست اور 2.79% كا بالواسط شيئة ولمر بإكستان مولد تكتر يما	
* 7.82%* 53.59% کورید کارات شر کارورات یه 10.12% براورات شیخ جوالدگا خرید فررید برائی مسلکه A برائی مسلکه B برائی مسلکه B	120,855,029 93,364,120 93,364,120 639,908,18 الله المحالية المريث ہے۔ سط شيتر جولذگ الفريست ہے۔ سط شيتر جولذگ الفريست کے ذرب المحال کی تاریخ مصول کی تاریخ مربوانی شلکہ A B B B B B B B B B B B B B	ليوشر ("UWA") جناب محرفرخ جناب محرفرخ مختر مدفيه يدوايين ("Farrukh") محتر مدفيه يدوايين ("Fehmida") عل 4 ("Fehmida") عن ارگ محتي مين WPH كا(A من بارگ محتي مين (WPH كا(A المرزيت اور 1.67% كابالوا طرفية من (يون كارك محتي مين (WA) بالوا اخريت اور 2.79% كابالوا طرفية ولرياكتان جولذ تحرز بين مين (يون الواطرفية يون الوليلة ولرياكتان جولذ تحرز بيا	
7.82%* 53.59% 53.59% يخ)%21.74% براه راست شيخ جوالد گور مين المسابق شيخ جوالد گورد مين المسابق شيخ جوالد گورد مين المسابق شيخ جوالد گورد مين المسابق شيخ ميريانی مسلم المسابق شيخ جوالد گورد مين المسلم المسلم المسلم ميريانی مسلم المسلم ا	120,855,029 93,364,120 93,364,120 639,908,18 المين المينة بالواسط استيك ك ذر المين المينة بالواسط استيك ك ذر المين المينة بالواسط استيك ك ذر المين المينة بين المينة بالمين مشكلة المين مشكلة المينة بين المينة بينة بين المينة بينة بين المينة بينة بين المينة بينة بين المينة بينة بين المينة بين	لبوشر ("UWA") جناب محرفرخ جناب محرفرخ "Farrukh") محتر مدفه بهروایین ("Fehmida") عل ۱۹ میلی میلی المسال کا (۹ میلی میلی میلی کا (۹ میلی کا (۹ میلی میلی میلی کا (۱ میلی کا را کا کا اطاع کا (۱ میلی کا را کا کا کا اطاع کا (۱ میلی کا کا اطاع کا المیلی میلی کا کا اطاع کا المیلی کا کا کا المیلی کا کا کا المیلی کا	
7.82%* 53.59% 53.59% يخ)%21.74% براه راست شيخ جوالد گور مين المسابق شيخ جوالد گورد مين المسابق شيخ جوالد گورد مين المسابق شيخ جوالد گورد مين المسابق شيخ ميريانی مسلم المسابق شيخ جوالد گورد مين المسلم المسلم المسلم ميريانی مسلم المسلم ا	120,855,029 93,364,120 639,908,18 4 لل شار کے 152 اسٹیک کے 153 اسٹ	لینظر ("UWA") جناب محرقر خ جناب محرقر خ "Farrukh") محتر مدفیمیده این ("Fehmida") کا ۲۵ ** خرات تارکت کمینی شی ANF WPH و (۱٬۵۳۵ کا (۱٬۵۳۵ کا ۱٬۵۳۵ کا ۱٬۵	
7.82%* 53.59% 53.59% يخ)%21.74% براه راست شيخ جوالد گور مين المسابق شيخ جوالد گورد مين المسابق شيخ جوالد گورد مين المسابق شيخ جوالد گورد مين المسابق شيخ ميريانی مسلم المسابق شيخ جوالد گورد مين المسلم المسلم المسلم ميريانی مسلم المسلم ا	120,855,029 93,364,120 639,908,18 4 لل شار کے 152 اسٹیک کے 153 اسٹ	لیوشر ("UWA") جناب محد فرخ جناب محد فرخ مختر مد فبهیده ایمن ("Fehmida") کمتر مد فبهیده ایمن عنار است کورش شی WPH کا (۵ جنار علی اعز ریست اور ۱۵٬۵۵۷ کا (۵ با کا داک کمینی میس (۱۸۷۵ کا پالوا علی شیخ میس (۱۸۷۵ کا بالوا علی شیخ مین مین ایما کورش کرد کا بالوا علی شیخ مین ایما کا در ایما کورش کرد کا بالوا علی مین کرد ایما کرد کرد کا بالوا علی کرد کرد کا بالوا علی کرد	
7.82%* 53.59% 53.59% يخ)%21.74% براه راست شيخ جوالد گور مين المسابق شيخ جوالد گورد مين المسابق شيخ جوالد گورد مين المسابق شيخ جوالد گورد مين المسابق شيخ ميريانی مسلم المسابق شيخ جوالد گورد مين المسلم المسلم المسلم ميريانی مسلم المسلم ا	120,855,029 93,364,120 639,908,18 4 لل شار کے 152 اسٹیک کے 153 اسٹ	لینظر ("UWA") جناب محرقر خ جناب محرقر خ "Farrukh") محتر مدفیمیده این ("Fehmida") کا ۲۵ ** خرات تارکت کمینی شی ANF WPH و (۱٬۵۳۵ کا (۱٬۵۳۵ کا ۱٬۵۳۵ کا ۱٬۵	
* 7.82%* 53.59% کور مینی کا 21.74% براه راست شیخ برانی مینی مینی مینی مینی مینی مینی مینی م	120,855,029 93,364,120 639,908,18 10W شي التي المرابط المثلي ك والمثلي ك والمثلي ك والمثلي المرابط المثلي ك والمثل المثل ا	لینظر ("UWA") جناب محرقر خ جناب محرقر خ محتر میفهیده این ("Fehmida") کل ۱۹ کارگ کارگ کارگ کارگ کارگ کارگ کارگ این کارگ کارگ کارگ کارگ کارگ کارگ کارگ کارگ	
* 53.59% 53.59% 53.59% المورات على 21.74% براورات شيخ براورات شيخ برائي مسلكه مداري مسلكه مداري مسلكه مداري مسلكه مسلك مسلكه مداري مسلكه مسلكه مداري مسلكه مسلك مسلكه مسلكه مسلكه مسلكه مسلكه مسلكه مسلك مسلك مسلكه مسل	120,855,029 93,364,120 639,908,184 639,908,184 المين البين بالواسط استيك ك ذر البين البين بالواسط استيك ك ذر المين البين بالواسط استيك ك ذر المين البين مستقد بين البين مستقد بين البين مستقد بين البين مستقد المين المراب المين مستقد المين المي	لینظر ("UWA") جناب محرقر خ "Farrukh") محتر مدفیه پردایش ("Fehmida") کا ۱۳ از الت کمپنی میں WPH کا (۵ الله که که کا (اک کم کا (۵ الله که	share =
* 7.82%* 53.59% کور لید)	120,855,029 93,364,120 639,908,184 639,908,184 پالواسط شیئر جولانگ انٹریٹ ہے۔ ایش اپنے پالواسط اسٹیک کے قرر ا ایش اپنے پالواسط اسٹیک کے قرر ا ایش اپنے پالواسط اسٹیک کے قرر ا کا شمار پائی شلکہ A مریانی شلکہ A کا شیئر ترخرید ہے ہیں۔ بیش ترخرید ہے ہیں۔ دونوں نے وقتیا فو تقالویں مارکیٹ بیش کر ترخرید ہے ہیں۔ دونوں کے وقتی صاصل کے جا کی مارکیٹ میں 2021 ہے۔ دیس کا 2777,070,08 پے چید بلین، آگھ مواور چیا نو سطین، کے چید بلین، آگھ مواور چیا نو سطین، کے چید بلین، آگھ مواور چیا نو سطین، کو چید بلین، آگھ مواور چیا نو سطین،	بیناب محد قرن ("UWA") بیناب محد قرن فرن ("Farrukh") محتر مدفیمیده این از Fehmida") 4 کال ("Fehmida") 4 کال	share = -4,900/- صرف)
* 7.82%* 53.59% کور لید)	120,855,029 93,364,120 639,908,184 639,908,184 المين البين بالواسط استيك ك ذر البين البين بالواسط استيك ك ذر المين البين بالواسط استيك ك ذر المين البين مستقد بين البين مستقد بين البين مستقد بين البين مستقد المين المراب المين مستقد المين المي	بیناب محد قرن ("UWA") بیناب محد قرن فرن ("Farrukh") محتر مدفیمیده این از Fehmida") 4 کال ("Fehmida") 4 کال	share = -4,900/- صرف)
* 7.82%* 53.59% کور میے) 21.74% براورات میں 10.12% براورات شیئر جولا گ جرید فررایی میریانی مشکد A میریانی مشکد B برائے مہریانی مشکد B کریے برائی مشکد B	120,855,029 93,364,120 639,908,184 639,908,184 المس المينة بالواسط استيك ك ذر المينة بالمن مشلك A مشتر باني مشلك A مشتر فريق من دونوس في وقتها فو تقاوي ما ركيت ورائي مشكل A مشتر فريق من دونوس في وقتها فو تقاوي ما ركيت ورائي ك مين من 2021 - وجن بالمين من 2021 من من 2021 - وجن بالمين كل 2021 - وجن بالمين	لینظر("UWA") جناب محرقر خ جناب محرقر خ "Farrukh") محتر مدفیمیره ایمن ("Fehmida") عل ۱۹ کا ۱۸ کا	share = -4,900/- مرف) پاکتان اط
* 7.82%* 53.59% کاور مع کارورات شرکتر بولدگر چی پخراریو میریانی شکله A برائی میریانی شکله A برائی میریانی شکله A کی صورت میریانی شکله B کی صورت میریانی شکله B کی صورت میریانی شکله کاروراور نوسو کی صورت میریانی شکله کاروراور نوسو کی سورت میریانی کاروراور نوسو کی سورت میریانی کاروراور نوسو کی سورت میریانی کاروراور نوسو کی سورت میریانی کاروراور نوسو	120,855,029 93,364,120 639,908,184 639,908,184 140,45 الريث به المسلم المس	لیظر ("UWA") جناب محرقر خ جناب محرقر خ "Farrukh") محتر مدفهبیده ایمن ("Fehmida") ه نارگت کمچنی هی PH کا (۸ تمین مواند نگ اخریت اور ۱۵٬۷۵۷ کا (۸ اخریت اور ۱۵٬۷۵۷ کا بالواطشین ایر (۱۵٬۷۵۷ کا بالواطشین کا الواک محین کرد ایر کا کا بالوالی کا کا کا بالوالی کا بالوالی کا	share = 4,900/- مرف) پاکتان اط پاکتان اط
* 7.82%* 53.59% 53.59% 4) المراح على المراح على المراح على المراح على المراح على المراح على المراح المراح المراح المراح على المراح	120,855,029 93,364,120 93,364,120 639,908,184 بالواسط المشتر بولذگ اخریت ہے۔ سط شیر بولڈگ اخریت کے ذرب المیں اپنے بالواسط اسٹیک کے ذرب کے بیر بانی مشکلہ A B A B A A B B C C C C C C C C C C C	لیظر ("UWA") جناب محرقر خ جناب محرقر خ "Farrukh") محتر مدفیمیده این ا "Fehmida") ا ارک کمینی شیل WPH کا (A A) لا WPH کا رک الحق شیل مینی شیل (L.67%) ا خرائی اخریست اور 2.79% کا بالوا طرفیمی این کی ای لیشل و کی بالوی المیشل و کی ای لیشل کی ای لیشل و کی کی ای لیشل کی ای لیشل کی ای لیشل کی ای لیشل کی کار از کم شیل کی ای لیشل کی ای لیشل کی ای لیشل کی ای لیشل کی ای کی	share = 4,900/- مرف) پاکستان اط پوککارر گولها مندرود زلر
* 7.82%* 53.59% 53.59% 21.74%(يع) % 21.74% برادرات شيخ بولد الله مارات شيخ برائي مشلكه A ميل منافع ميراني مشلكه B ميل منافع ميراني مشلكه B ميل مارات جيت	120,855,029 93,364,120 639,908,184 639,908,184 140,45 الريث به المسلم المس	لینظر ("UWA") جناب محرقر خ جناب محرقر خ "Farrukh") محتر مشجیره ایمن ("Fehmida") المحال کا المحال کی	share = 4,900/- مرف) پاکستان اط پوککارر گولها مندرود زلر

و(5) 19 ايريل 2024ء تبوليت اورتصفيه كاطريقه وكار پیک آفر قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شیئر جولڈرز قبولیت کالیز (جو آفر لینز کے کے ساتھ شکک ہے) ناركث كمينى كشيئر بولدرزى طرف سي بيكش كى قبوليت كالنصيل طريقه مكار مناسب طریقے ہے مکمل کیا جوا اور دھخط شدہ مطلوبہ وستاویزات کے ساتھ (جیبا کہ ذیل میں بتایا گیاہے) 12 جون 2024 كوشام 5:00 يج تك آفر كم ميخ كواس كرجشر أدية يعني دوسري منزل، عارف حبيب سينشر، 23 واليم في خان روؤ يرجيج ديراس بات كويفين بنائي كد قبوليت كي ليشر كساتي شيئرز كي تعداد سيت تمام مطلوب معلومات فراہم کردی گئی ہیں۔ تجوليت كاليثراو مطلوب دستاويزات مقرره وقت كاندرفراتهم كرنے يرآ فركاميخر دستاويز آكى وصولى كالقعديق نامد آ فرے میٹر کو بندش کی تاریخ تک مناسب طریقے ہے کمل کیا ہوا اور وسخفا شدہ قبولیت کے لیزمع مطاوبہ وستاو برات وصولی بلک آفر قبول کرنے کے متر ادف ہوگی۔ تولیت کے ممل شدہ فارم جع کرائے کے بعد پلک آفر میں فروخت کرنے والے شیئر بولڈرز کی طرف مے منسوخ ی ڈی ی اکاؤٹ کی تفسیلات جس میں تجوایت کی مت کے دوران تجوایت براہل شیئر بولڈرز کی طرفء شيئرزيش كرنا ضروري-5. حسول كندكان كاطرف يانات عول کندگان کی طرف سے اس ڈاکومیٹ میں شام معلومات کے لیے ذمدداری پوری کرنے کے معول کنندگان کی طرف ہے اس بارے میں بیان کدا بکٹ اور ریکولیشنز کی قبیل کو بیٹنی بنانے کے لیے صول کنندگان میں سے برایک، بشول ساتھ ال کرکام کرنے والے افراد، اگر کوئی بور شتر کے طور پراور صول کشدگان کی طرف سے بیمیان کہ پیک آفران تمام شیر مولڈرز کو کی جارتی ہے جن کے پاس ٹارگٹ مینی میں ووٹک شیئرز ہیں (ماموائے حصول کنندگان کے ساتھ ٹل کرکام کرنے والے)جن کے نام کھاتے کی بندش کی تاریخ پرشیئر ہولڈرز کے رجشر میں درج ہیں۔ عسول کنندگان کی طرف سے بیمیان کدیلک آفرے لیے تمام قانونی متھوریاں حاصل کی جا چک ہیں بية سكلو ژرك آيا يك اورر يكوليشنزى تمام متعلقه وفعات كالقيل كالى ب س حقیقت کے بارے میں بیان کدا گر حصول کنندگان کا کوئی ڈائر بیٹر (x) ٹارگٹ کپٹی کے بورڈ پر بھی حصول کتندگان کی طرف سے بیبیان کہ آیا پیک آفرے مطابق حاصل کردہ کوئی وفٹک شیئر کمی دوسر فردونتل كياجائ كاينيس اوراكرابيا جواتوا يصافرادك ام فابرك جاكي ك No. of Shares Rate 10.00 70,155,000 شير 14,114,984 27.00 58,939,844 27.00 27.00 38,801,695 58,585,810 1,889,549 24.40 22.99 1,000,000 1,500,000 21.70 887,638 20.00 311,150 19.87 201 123,388 20.00 1,371,633 19.97 1,448,890 1,091,416 19.80 2,000,000 19.70 19.40 1,500,000 16.79 4,525,000 100,000 17.00 16.48 1,000,000 189,953 16.70 259,535,950 No. of Shares Rate 59,905,187 10.00 103,260,690 14.09 418,451 ارادے کے اعلان عام کی تاریخ فرید وفروخت کے 28 دن قبل کے دورالیکیو رثیز ایجیجنی پرارگٹ میٹی 375,157 ک weighted اوسط شیئز پرانس اور صرف وہی دن شار کیے جائیں گے جن میں ٹارگٹ کمپنی کے شیئر ز کی خرید و 14.10 13,99 125,000 262,192 14.00 650,000 صول کنندگان نے-/6,896,294,900 (یا کتانی روپے چھے بلین ،آٹھے سواور چھیا تو لیلین ، دوسواور چورانوے ہزار 14.00 13.00 257,408 13.00 418,337 حسول کنندگان نے بیک آفر کے تحت اپنی ذمد دار یوں کی بخیل کے لیے مناسب مالی انظامات کیے ہیں۔

```
ساييك /https://www.arifhabibltd.com/ بيجى ومتياب بين ـ
           تبولیت کے لیے پیک آفرسات روز تک6 جون 2024 کو PST 0900 سے شروع ہوکر 12 جون
 2024 كو1700 بيج تك ("بندش كى تارخ أ) تك كلى ربى بندو فى تارخ براوقات كارك بعدوعمول
                     ہونے والی قبولیتس قابل غورشیں مول گیا اور پیکشش کی مدت میں توسیج شیس کی جائے گی۔
                                     قبولیت کے لیٹر کے ساتھ مندرجہ ذیل دستاویزات کاجوناضروری ہے:
افرادی درخواست دمع کان کے لیے: کمپیوٹرائز ڈوی شاختی کارڈی تصدیق شدہ کا بی، اصل شیئرسر تفکیش، اور
مناسب طریقے ے ایکز کیوٹ کی ہوئی اراضفرا پار معشیر زکواسیات کرنے کے لیے مناسب طریقے سے عمل اور
وسخط شدہ اجازت نامد (صرف فزیکل شیئرز کے لیے )اوری ؤی می ٹرانسفرؤ سل جو چی ؤی می انویسر اکاؤنت
                                                 سروسز کودی کئی تھی (صرف ی ڈی ی شیئرز کے لیے)
كار يوريك ودخواست دميرگان كے ليے: ميوريدم ايندا آريكر آف اينوى ايش كى تقيديق شده كافي، شوكليث آف
ا تکار پوریش کی تصدیق شده کانی (اور پلک کمپنیوں کے لیے، کاروبار شروع کرنے کا شرفکیٹ) و متحظ کشندگان کے کمپیوٹرائز ڈ
قو می شاختی کار از کی تقید میں شده کا پیاں ، بور اقر ارداد کی تقید میں شده کا بی جس میں افراد کوشیئر زفر وخت کرنے کی اجازت
ى گى بوقع اليے مجازا فرادكت دستخط نمونه اصل شيئر طوفليث اور مناسب طريقے سے ايگر يكيوك كى بونى رُانسفردُ بأر ذمع شيئر
فِقَلَيثُ(s) کواسپات کرنے کے لیے مناسب طریقے ہے مکمل اور وستخذا شدہ اجازت ناسد (صرف فزیکل ثیمترز کے لیے ) ہ ق
         ا ئى ئىرانىغرىلىس كى كالى جوى ۋى ئى نانولىشرا كاۋنت سرومز كوچى كرائى گۇچى (صرف ئى قاي تى تىمترز كے ليے )
طلوبدستاویزات کے بغیرشیئر بولڈر(s) کی طرف سے پیش کردہ قبولیت کا کوئی بھی لیٹر نامکمل اور غیر کارآ مدہونے کی بنایر
                                                             افر كے مينجر كى طرف سے مستر دكيا جا مكتا ہے۔
فروفت کنندوشیتر مولدرزی طرف سے چیش کردوشیترزی حصول کنندگان کی جانب سے تبویت اور آخر برائس کی ادایکی
                                                                       ىندرجدة بل شرائط سے مشروط ب
                             كميشن ياكسى دوسرى مجاز القارثي كوپيك آفري كمي بھى دفعه بركوتي اعتراض شاهو:
 شيئرز كادا يملى فارن اليجيني ريكوليشنزا يك ،1947 اوراشيث مينك آف ياكستان كارن اليجيني مينول كركسي
مطلوبد ستاویزات کے ساتھ مناسب طور پر کمل اور دستخط شدہ قبولیت کالیٹر بندش کی تاریخ پریااس سے پہلے آفر کے
                                                                            منفرتك تخفي جائه!
                                           پیش کردہ شیئر زنارگٹ کمپنی کی طرف سے منظور شدہ وہوں ؛ اور
                                     حسول کنندگان ایک کی وفعات کے مطابق پلک آفروایس نہ لیں۔
مطلوبه وستاه برات كے ساتھ مجي طريقے ہے بُر كيا ہوا قبوليت كافارم ملنے برآ فركامينو فروخت كنندوشيئر بولڈرز كوان شيئر ز كی
والیکی کے طور پرشیئر بولڈرز کے حق میں بینک ڈرافش ایے آرڈرز کے ساتھ قبولیت کی مدت بند ہونے کے دی (10) روز
كاندرتخ يرى طور يرقبوليت كى اطلاع دے كاره صول كنندگان كى طرف سے فروخت كننده كى بحى شيئر بولدر سے ثريد كعده
                  شيرز يركى بحى وجدياسب كوئى مارك إب مرجارة يادومرى اشافى رقم قابل ادا يكى نيس موكى .
ی وی می اکاؤٹ بولڈرز اوپر مطے کردو کار برعمل کریں گے،جیبا قابل اطلاق بو،اس کے علاوہ می وی می اکاؤٹ
ولڈرز مندر بچہ ذیل تضیلات کے مطابق لازی ان شیئر کوآ فر کے میٹیر کے ق ڈی ہی اکاؤنٹ میں منتقل کریں اورشیئرز کی
                                         تعلى كيوالے - آفر كے في كوى دى والسفرسل فراہم كريں:
                    ى دى يى اكاؤنت بائتل: Manager to the Offer (Unity Foods Limited)
                                                                   ى دُى ى سب اكاة نت نبر: 178153
                                                                             وآئي اين: 0111429
                                          UIN # WEHL000002568UAE: الزيكشن دين كوا
                                                                 انزاكاؤنث كيا - A021
                                                                 - انزااكاؤنك كي لي -- PO15
 نویکل ثیمتر شخایث (s) رکھنے والے ثیمتر مولڈرز کے لیے ضروری ہے کدو دمنا سبطریقے سے تقدرین شدہ فرانسٹر ڈیڈ (s)
                                                              كى ساتھ فزيكل ثيمَر شۇقلىث (s) فراجم كريں
حصول کنندگان / حصول کنندگان کے ڈائر بکشرز (ولر پاکستان بولڈگز ٹی ٹی ای کمیٹشاور بوٹی ولمرا بگرو(پرائیویٹ ) کمیٹشا
                                      كى صورت يس )اس ۋاكومىزى بىن شامل معلومات كى دىمددارى ليت بين
                                   حصول کنندگان ایک اور یکولیشنز کی قبیل کویقینی بنانے کی ڈ مدداری لیتے ہیں۔
صول کشترگان تصدیق کرتے ہیں کہ بلک آفران تمام شیئر ہولڈرز کوکی جارتی ہے جن کے باس ٹارگٹ کمپنی میں وونگ
شیئرز ہیں (ماسوائے حصول کنندگان کے ساتھ ول کر کام کرنے والے) اور جن کے نام کھاتے کی بندش کی تاریخ برشیئر
                             ہولڈرز کے رجنز میں درج میں جس کا اعلان اس مقصد کے لیے نارگٹ کمپنی کرے گی۔
صول کنندگان تصدیق کرتے ہیں کہ پلک آخر کے لیے تمام قانونی منظوریاں، جیسا کدا یکٹ اور پگولیشنز کے تحت ضروری
                     صول کنندگان تقعد این کرتے ہیں کدا بکٹ اور پیکولیشنوکی تمام متعلقہ دفعات کی تیل کی گئے ہے۔
ولمر پاکستان مولڈنگز پی ٹی ای کمینڈ اور بوٹن ولمرا میکرو(پرائیویٹ) کمیلڈ کی  ڈائر میٹر Ms کی ہا نگ ہوا ٹارگٹ میٹنی کی مجھی
           ارْ يكثر ميں يونن ولمرا يكرو(پرائيويث) لميلا كؤائر يكثر جناب فدفرخ نارگٹ ممپنی كے بھی ڈائر يكثر ميں۔
                     ند كوره بالا كے علاوہ حصول كنندگان كاكوئي ذائر بكثر ثارگٹ كسپ ؛ في كے بورڈ بر ذائر بكر تبین ہے۔
حسول کتندگان تفعد میں کرتے ہیں کہ پلک آفری روے حاصل کرده دوننگ شیئر زکمی دوسرے فروننظل کرنے کااراده شیں ب
  ما سوائے جو حصول کنندگان کے ایسے نامزدگان و نقشل کیے جاسکتے ہیں چھنیں نارگٹ کیٹی کے بورڈ پرمقرر کیا الیا جاسکتا ہے۔
                                                                 Wilmar Pakistan Holding PTE limited
                                                    Purchase Through
       Sep-20
                          3rd Right Share Subscription of renounced Shares
       Feb-22
                          4th Right Share Subscription -Right Entitlement
                         4th Right Share Subscription - Shares issued from directors and
       Feb-22
                          substantial shareholder renunciation
                          4th Right Share Subscription- Other shares subscribed from
                          relatives of directors' renunciation
                          4th Right Share Subscription - Shares subscribed from
                          unsubscribed portion of general public
                          SecondaryMarket
     05/06/2022
     05/09/2022
                          SecondaryMarket
                          SecondaryMarket
     05/11/2022
     06/07/2022
                          Secondary Market
     14/06/2022
                          Secondary Market
                          Secondary Market
     30/06/2022
     07/01/2022
                          Secondary Market
     07/06/2022
                          Secondary Market
     13/07/2022
                          Secondary Market
     18/07/2022
                          Secondary Market
     19/07/2022
                          Secondary Market
     18/11/2022
                          Secondary Market
     21/11/2022
                          Secondary Market
     28/11/2022
                          Secondary Market
                          Secondary Market
     29/11/2022
                                                                 Total
                                                                                  APPENDIX B
                                                                  Unity Wilmar Agro (Private) Limited
```

Date

23/05/2019

23/07/2020

23/12/2022

28/12/2022

29/12/2022

01/03/2023

01/04/2023

24/02/2023

27/02/2023

28/02/2023

03/01/2023

03/02/2023

Secondary Market

Secondary Marke

Secondary Market

Purchase Through

Total

12.90

12.65

12.70

181,712

55,079

243,872

166,153,085

قبولیت کے فارم کی نقول عارف حبیب لمیٹلہ کے وفائز (پید ویل میں فراہم کیا گیا ہے) یا ویب

NATIONAL NEWS

Protection of databases, businesses

Cos asked to maintain comprehensive cybersecurity solution

Talking about the issues EDR (Endpoint Detection ISLAMABAD: A global being face by Pakistani com- and Response) alongside the line of cybersecurity prodcyber security company has panies, Kaspersky experts visibility and powerful tools ucts that includes robust endstrongly advised Pakistani informed on Friday that it of companies to maintain a has introduced its new flag- Detection and Response). comprehensive cybersecuri- ship product line "Kaspersky Customers can now choose beyond the classic EPP ty solution for effective pro- Next" combining robust one of three product tiers tai- (Endpoint tection to their databases and endpoint protection with the lored to their business Platform), bringing together transparency and speed of

PAKISTAN RAILWAYS

OFFICE OF THE PROJECT DIRECTOR IMMEDIATE

TRACK SAFETY WORKS (ROH-KPR)
INVITATION FOR BIDS

ADDENDUM

Reference to subject Tender Notice (Bid identification) No.398-SIG/PSDP/DVR/2023-24 uploaded on EPADS (Tender No.F-240453177) title

Supply, Installation, Testing and Commissioning of Dynamic Voltage

Regulator With Active Power Filter And Power Factor Controlling Systen (Impedance Generator) of capacity 40 KVA (3 Nos.), 30 KVA (15 Nos.) along

with spare parts on Tando Adam-Rohri-Khanpur sections, Sukkur Division The Bid Security Clause, BDS No.18, ITB No.18.1 in the tender documen

Will be read as:

"Bid must be accompanied by bid security in the form of Bank Guarantee,
CDR/Banker Cheque/pay order or as Insurance Guarantee from an
Insurance Company having at least AA rating from PACRA/JCR made in
favour of FA & CAO, Pakistan Railway, amounting Rs.3.00 million".

Performance Security Clause, GCC Clause No. 10.1, SCC No.1 in tended document will be read as:

'The Performance Security (or guarantee) shall be 10% of the value of each

P/order it will be as bank guarantee or as Insurance guarantee from an Insurance company having at least AA rating from PACRA/JCR made in

favour of FA&CAO PR for the currency of agreement and submitted to PD/ ITSW Rohri -Khanpur office. The performance security will be returned after

(ALI NAWAB KHAN)

Deputy Chief Signal & Telecom Engineer/North, For PD/Immediate Track Safety (ROH-KPR) Pakistan Railways, Headquarters Office, Empress Road, Lahore, Pakistan

Habib Sugar Mills Limited

Public Announcement of closure of

Purchase Period for Buy-Back of Shares

Habib Sugar Mills Limited (the Company)

in accordance with Regulation 10(g) of the

Listed Companies (Buy-Back of Shares)

Regulations, 2019 (the Regulations)]

This is to announce the closure of the

Purchase Period in relation to the Buy-

Back of Shares by the Company, as

approved by the members of Habib Sugar

Mills Limited (the "Company") in the Annual

General Meeting held on January 24, 2024,

the public announcement of which was

duly made in this newspaper on January

26, 2024. During the Purchase Period. the

Company has completed purchase/Buy-

Back of an aggregate of 15,000,000

(fifteen million) ordinary shares of the

Company (Purchased Shares), representing

10% of the issued and paid-up share

capital of the Company on April 25, 2024.

The Purchased Shares shall be cancelled

and Members' Approval. Accordingly, in

accordance with Regulation 7(2) of

the Regulations, the Purchase Period

stands closed/completed on Thursday,

Imran Amin Virani

Company Secretary

accordance with applicable laws

Installation, Testing and Commissioning".

Other terms & conditions of tender will remain unchanged.

XDR

state security operations are and XDR help companies to they were several years ago. lent, evasive, and sophisticat-41% of respondents believe ed attacks, providing busithat the evolving and rapidly nesses with total visibility changing threat landscape is control, rapid response and the key reason behind diffiproactive threat hunting. culty in security operation to keep up with security ana-

sive cybersecurity solution and advanced monitoring. they can trust and rely on for

Kaspersky Next is a new (Extended point protection powered by requirements, the complexi- EDR and XDR for corporate y of their IT infrastructure, customers of any size and and their available resources. industry. As the most According to a report from advanced and effective a survey, 52% of companies cybersecurity solutions, EDR more difficult today than withstand the more preva-

Kaspersky Next is deploywhile 20% sighted lack of ment-agnostic and allows for cybersecurity skills or staff both cloud and on-premise installations. Companies can lytics and operations as key manage it either through a streamlined console to per-Amid the constantly form core cybersecurity evolving cyber threat land- tasks quickly, or via an scape, it is vital for compa- enterprise-grade console nies to have a comprehen- with more granular controls

The new product line effective protection. As a helps companies build cruleading innovative and tech- cial cybersecurity functions company, to provide robust protection Kaspersky is continuously against ransomware, maldeveloping its solutions to ware and data breaches, and address all the cybersecurity avoid infrastructure penetrarequirements of businesses, tion through Business Email helping them build up reli- Compromise, supply chain able cybersecurity frame- attacks, exploits and other vulnerabilities



CORRIGENDUM /ADDENDUM NO. 1 TENDER # FN/FB-411

TENDER FOR SECURITY DESIGN SOFTWARE

REFERENCE SUBJECT TENDER ADVERTISEMENT PUBLISHED IN DAILY EXPRESS AND BUSINESS RECORDER ON 23.03.2024.

THE TENDER OPENING DATE OF THE SUBJECT TENDER HAS BEEN EXTENDED UPTO 14.05.2024.

OTHER TERMS & CONDITIONS OF THE TENDER DOCUMENTS SHALL REMAIN THE SAME.

DY. GENERAL MANAGER **PURCHASE** PID (K) No. 3015/23

TENDER NOTICE

1. 1 Engineers Battalion, Hyderabad Cantonment invites sealed bids for purchase of construction material for Upgrd for trg facilities at KFFR, Sniper Rg and Hard Standing out of Special Annual Training Grant (Spec ATG) FY-2023/2024. Bidder must be registered with income Tax and Sales Tax Department/ FBR.

2. Bidding documents, detailed terms and conditions, procurement, procedure for submission of bids, bid security, bid validity, opening evaluation criteria, clarification/rejection of bids, performance guarantee etc. are available for the terested bidders in this unit.

3. The prepared bids in accordance of the instructions in bidding documents, must reach this unit by 13 May 2024 at 1100 hrs and will be opened at 1130 hrs on the same date. The advertisement is also available on PPRA website.

> 1 Engineer Battalion **Hyderabad Cantonment** 022-2781811

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER HIGHWAYS DIVISION KASHMORE @ KANDHKHOT

Ph No. 0722/573773

No. XEN:(HWs)TC/145/2024 Kash:@ K.kot Dated: 23/04/2024

April 25, 2024.

April 27, 2024

Karachi:

Sealed Tenders are invited as per SPPRA Rule 2010 (Amended 2019) on composite schedule Rates (CSR-2012) from the contractors/Firms/Companies on Standard

S. No.	Name of scheme	Estimated Cost	Completion Period	Cost of Tender	Earnest Money
1	Construction Of Road From Saleh Khan & Molvi Abdullah Mazari Via Lundi Band Upto Chandol Road (Portion-i) Taluka Kashmore	40.000	12 Months	3000/=	05%
2	Construction Of Road From Saleh Khan & Molvi Abdullah Mazari Via Lundi Band Upto Chandol Road (Portion-II) Taluka Kashmore	40.000	12 Months	3000/=	05%
3	Construction Of Road From Saleh Khan & Molvi Abdullah Mazari Via Lundi Band Upto Chandol Road (Portion-II) Taluka Kashmore	40.000	12 Months	3000/=	05%
4	Reconditioning of road from Indus Highway remaining portion along, Adio wah.	40.000	12 Months	3000/=	05%
	Reconstruction of Paver road from Farooqui Pump city bypass (Portion-I)	40.000	12 Months	3000/=	05%
3	Reconstruction of road from Mashooque Khan Malik & Din Muhammad Malik.	20.000	12 Months	3000/=	05%
7	Reconstruction of road from Tangwani Thull road to Kundo Bakhrani & Janib Lashari villages via Muqdum Piyaro Bajkani & Daulat Gajani to connect 36 Mile (Portion-I)	30.000	12 Months	3000/=	05%

- for the current financial year 2023-24
- Method of Procurement: Single Stage Two Envelopes Procedure, Open National Competitive Bidding Bidding /Tender Documents (Issuance, Submission & Opening)

S.#	Particulars	1st Attempt	In case of un-responded tender
i.	Last date of receipt of application for issuance of Blank Tender from Publication of NIT upto 05:00 PM on payment of tender fee (Non-Refundable)	13-05-2024	29-05-2024
ii.	Date of receipt and opening of tenders. (Receipt of tender upto 10:00 AM & Opening at 11:00AM	14-05-2024	30-05-2024
iii	Place of issuance submission, inquiries and opening will be at Office of the Executive Engineer Highways	Division Kashmore @ Ka	ndhkot District Kashmore @

(TERMS & CONDITIONS)

INF-KRY No.

Under following conditions bid will be rejected: Bids not accompanied by bid security of requited amount and firms Bids received after specified date and time.

Black listed firms / involved in any litigation Incomplete bidding document (having just Bill of Quantities)

Unsigned and unstamped bidding documents

Kandhkot Near Deputy Commissioner Office Kandhkot

Procuring Agency reserved the rights to reject any or all the bids as per SPPRA Rules 2010 (Amended upto date)

Responsive Bidder is required to submit following documents with bid:

(a) Contract documents and other terms & conditions can be seen or downloaded from the official website of SPPRA.i.e https://ppms.pprasindh.gov.pk/PPMS/. The tenders fee above

mentioned amount and 5% Bid Security of estimated cost / bid cost in the shape of Call Deposit in favour of undersigned and No Pay Order valid.

Certificate (i) NTN Certificate (With active status), (ii) SRB Certificate (With active status) and (iii) Valid PEC Certificate (upto June 2023 in relevant category & matching specialized Code along with copy of CNIC of owner / Proprietor.

List of complete work (03 Nos.) for last three years from (2021 to 2023) of Highways works with documentary evidence along-with satisfactory completion certificate of work and

copies of letter of award of works.

List of On-Going (03 Nos.) of Highways Works with documentary evidence with copies of award of works

Detail of machinery and equipment available for execution of work with documentary evidence Qualification and experience of technical personnel with names and key site management staff

Bank Statement of Last 03 Years, conforming Cash Availability 20% of the estimate cost of work and financial capability must have turn over of 100% of the estimate cost of work Current affidavit that the Firm is not indulged in litigation and has not abandoned any work.

Affidavit that the given information, documents and data is absolutely true and correct. Audit Report of Companies enclosed herewith Last 03 Years.

In case undesirable circumvents on submission / opening date and time or if Government declares Holidays the tender shall besubmitted / opened on the next working day at the

Bid shall comprise Single Package containing Two separate envelopes. Each envelope contain separately the Financial Proposal and Technical Proposal. Envelope shall be marked Technical Proposal and Financial Proposal in bold and legible letters to avoid confusion.

Technical Proposal opened, shall be evaluated for technical qualification of the firms. Financial bids / proposals of the technically qualified firms shall be opened on the date and time that will be communicated in writing to all the qualified contractor / firms. Financial bids / proposals of technical disqualified shall be returned to the respective bidders un-opened

> **EXECUTIVE ENGINEER** HIGHWAYS DIVISION پڙهندي سنڌ ته..... وڌندي سنڌ <u>بڑ ه</u>گا *سنده آو۔۔۔۔ بڑ هگا سنده* KASHMORE @ KANDHKHOT

the end of the last financial year Number of shares issued since the end of the of the Acquirers (in case of last financial year of the Acquirers Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd. Unity Wilmar Agro (Private) Limited NIL DETAILS OF THE PUBLIC OFFER Number of shares already held Details of any existing holding of voting rights in the Target Company: by the Acquirers along with the No of shares held % of shares held date(s) of acquisition. Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd. ("WPH") Unity Wilmar Agro (Private) Limited ("UWA") Also state whether it was Mr. Muhammad Farrukh ("Farrukh") purchased through open market Ms. Fehmida Amin ("Fehmida") or acquired through a negotiated

PART B

Corrigendum to the Public Announcement of Public Offer dated April 17, 2024 in relation to the acquisition of up to 277,070,908 shares (constituting 23.20% of the shareholding interest) and joint control of

Unity Foods Limited

This Corrigendum covers certain amendments to the Public Announcement of Public Offer dated April 17, 2024 ("PAO" that was issued on April 17, 2024 through Arif Habib Limited (the "Manager to the Offer") on behalf of (i) Wilman Pakistan Holdings Pte. Ltd., (ii) Unity Wilmar Agro (Private) Limited, (iii) Mr. Muhammad Farrukh, and (iv) Ms. Fehmida Amin (collectively, the "Acquirers"), and was published on April 19, 2024 in the Business Recorder and Nawa-i-Waqi

newspapers, with respect to the acquisition of up to 277,070,908 shares (constituting 23.20% of the shareholding interest and joint control of Unity Foods Limited (the "Target Company"). The amendments in this Corrigendum relate to inter alia the offer price, which shall be PKR 27.34 per share, in conformity with the pricing formula provided under the Listed

Companies (Substantial Acquisition of Voting Shares and Takeovers) Regulations, 2017. Accordingly, the below mentioned

sections of the PAO stand amended and are reproduced in this Corrigendum. All other details in the PAO, other than those

PART A

Percentage

Percentage

Percentage

Percentage

Percentage

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

23.20%

0.23%

4.41%

0.23%

18.33%

Price per Share

PKR 27.34

PKR 27.34

PKR 27.34

PKR 27.34

PKR 27.34

N/A

N/A

N/A

Number of shares

218,886,017 shares

Number of shares

2,770,709 shares

Number of shares

52,643,473 shares

Number of shares

2,770,709 shares

Number of shares

277,070,908 shares

Details are as follows:

N/A

259,535,950 21.74%* 166,153,085 13.92% 10.12%* 120,855,029 93,364,120 7.82% 639,908,184 53.59% * WPH has a direct shareholding interest of 21.74% and an indirect shareholding interest of 7.23% (through its 52% stake in UWA) in the Target Company. * Farrukh has a direct shareholding interest of 10.12% and an indirect shareholding

* Fehmida has a direct shareholding interest of 7.82% and an indirect shareholding interest of 2.79% (through her indirect stake in UWA) in the Target Company. Date of acquisition Name Purchase through Please refer to Appendix Please refer to Appendix Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd. A of the PAO A of the PAO Unity Wilmar Agro Please refer to Appendix

interest of 1.67% (through his indirect stake in UWA) in the Target Company

Please refer to Appendix From May 2016 onwards, both Mr. Muhammad Farrukh and Ms. Fehmida Amin have purchased shares of the Target Company, from time to time, through the open market, the negotiated deal market and through subscription of right shares.

OFFER PRICE AND FINANCIAL ARRANGEMENTS

3.1 Justification for the offer price

stated herein below, remain unchanged.

Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd.

(ii) Unity Wilmar Agro (Private) Limited

Brief description of the acquisition: -

Acquisition through

Acquisition through

Acquisition through

(iv) Ms. Fehmida Amin

Acquisition through

Acquisition through

1. THE ACQUIRERS

Number of shares issued since

(iii) Mr. Muhammad Farrukh

Agreement(s)

Public Offer

Agreement(s)

Public Offer

Agreement(s)

Public Offer

Agreement(s)

Agreement(s)

Public Offer

deal

Public Offer

Total amount of consideration to be paid for the shares to be tendered during the public offer (assuming full acceptances)

Seven Billion, Five Hundred and Seventy-Five Million, One Hundred and Eighteen Thousand, Six Hundred and Twenty-Five Only)

277,070,908 sharesxPKR 27.34 per share = PKR 7,575,118,625/- (Pak Rupees

Justification for the offer price for the shares of the Target Company, in the light of criteria contained in regulation 13 of these regulations

Since the shares of the Target Company are frequently traded as per the Regulations, the price to be offered to the public should be the highest price amongst the following: a) The highest price paid by the Acquirers for acquiring the voting shares of the Targ

Company during the 180 days preceding the date of Public Announcement of Public Offer: PKR 27.34 per share b) The weighted average share price of the Target Company on the securities exchange

during the 180 days preceding the date of Public Announcement of Public Offer: PKR 24.89 per share c) The weighted average share price of the Target Company on the securities exchange

during 28 trading days preceding the date of public announcement of intention and only those days shall be taken into account on which the shares of the Target Company have been traded: PKR 23.09 per share

Based on the above, the Public Offer is being made at PKR 27.34 per share, the highest

3.2. Financial Arrangements

Disclosure about the security arrangements made pursuance of Section 123 of the Act, 2015.

The Acquirers have arranged bank guarantees for the cumulative amount of PKR 7,575,118,625/- (Pak Rupees Seven Billion, Five Hundred and Seventy-Five Million, One Hundred and Eighteen Thousand, Six Hundred and Twenty-Five Only) issued by Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited in favour of the Manager to the Offer.

PROCEDURE FOR ACCEPTANCE AND SETTLEMENT

procedure Detailed acceptance of offer shareholder of the Target Company

- 1. In order to accept the Public Offer, the shareholders are required to send the letter of acceptance (attached to the offer letter), duly completed and signed, along with the requisite documents (as set out below) to the Manager to the Offer, at its registered address i.e., 2nd Floor, Arif Habib Centre, 23, M.T. Khan Road, Karachi, Pakistan on or before 5:00 pm on June 20, 2024. Please ensure that with the letter of acceptance,
- all the required information is provided, including the number of shares to be tendered. 2. In the event that the letter of acceptance and the requisite documents are delivered within the stipulated time, the Manager to the Offer will issue confirmation of the receipt of documents.
- Receipt by the Manager to the Offer by the closing date of the duly completed and signed letter of acceptance along with the required documents will constitute acceptance of the Public Offer.
- Completed acceptance forms, once submitted, cannot be revoked by shareholders selling in the Public Offer. Copies of the acceptance form shall also be available at the offices of Arif Habib
- Limited (address provided below) or on the website: https://www.arifhabibltd.com/. 6. The Public Offer will remain open for acceptance for seven days starting 0900 hours

PST on June 14, 2024 to 1700 hours on June 20, 2024 (the "Closing Date"). Acceptances received after working hours on the Closing Date shall not be entertained and the Public Offer period shall not be extended. The letter of acceptance must be accompanied by the following documents:

For Individual Applicants: An attested copy of Computerized National Identity Card, original shares certificates and duly executed transfer deeds along with the duly completed and signed authorization to split share(s) certificates letter for (physical shares only), and

copy of CDC transferred slip submitted with CDC investor account services (for CDC For Corporate Applicants: A certified copy of the Memorandum and Articles of Association, a certified copy of certificate of incorporation (and for public companies, certificate of commencement of business), certified copies of Computerized National Identity Card of signatories, a certified copy of the board resolution authorizing persons to

sell the shares with specimen signatures of such authorized persons, original share certificates and duly executed transfer deeds along with the duly completed and signed authorization to split share certificate(s) letter (for physical shares only), copy of CDC transfer slips submitted with CDC investor account services (for CDC shares only). Any letter of acceptance furnished by the shareholder(s) without the requisite documents

may be rejected by the Manager to the Offer as being incomplete and invalid. The acceptance by the Acquirers of the shares tendered by the selling shareholders and payment of the offer price is subject to the following conditions:

The Commission or any other competent authority having no objections to any of the provisions of the Public Offer;

The payment for the shares does not contravene any section of the Foreign Exchange Regulations Act, 1947 and the Foreign Exchange Manual of the State Bank of Pakistan; The letter of acceptance being duly completed and signed along with the required documents and submitted to the Manager to the Offer on or before the Closing Date;

The tendered shares being verified by the Target Company; and The Acquirers not withdrawing the Public Offer in accordance with the provisions of

the Act. Upon receipt of duly filled acceptance form along with the requisite documents, the

Manager to the Offer will send written acceptances of the tender along with bank drafts / pay orders in favour of the shareholder as payment for such shares to the selling shareholder within 10 (ten) days of the closing date of the acceptance period. No interest, mark-up, surcharge or other increment will be payable for any cause or reason on the aggregate price for the shares purchased by the Acquirers from any selling shareholder for any cause or فاتح ٹیم آج امریکہ میں نمائشی چیچ کھیلے گ

لا ہور(سپورٹس رپورٹر) 2009ء کی فاتح ٹیم 2 اپریل کو ہیوسٹن میں مقامی فرنجائز نائٹ ائیڈرز یونا یکٹڈ سے نمائشی میچ کھیلے گی۔ٹی ٹونٹی رلڈکپ 2009 کی فاتح ٹیم اس وقت کے کپتان

یونس خان کے ہمراہ ان دنوں امریکہ کے مختلف

ریاستوں کے ٹور پر ہے جہاں ٹیم کے 7نامور

کھلاڑی ٹرافی کے ہمراہ مختلف ایونٹس میں شرکت

کررہے ہیں۔ کپتان یونس خان کے ہمراہ شاہد

أ فِريدي،مصباح الحق،عبدالرزاق، كامران المل، عمرگل اورفواد عالم شامل ہیں جبکبہ وہاں موجود کرکٹر ز

عثان شنواری، جان نثار خان مجرمحس اورنعمان انور

جنوني افريقه مين سخت ٹريننگ

مدف پیرس اولمپکس ہیں: ارشدندیم

ً لا ہور(سپورٹس رپورٹر)اومپیین ارشد ندیم جنوبی

افریقہ میں سخت ٹریننگ کے مرحلے میں داخل ہوگئے۔ارشدندیم نے پہلے جمٹریننگ کی اور پھرتھر وکرنا

یونی فو ڈلمیٹڈ کے 277,070,908 شیئر ز (جوشیئر ہولڈنگ انٹریسٹ کا 23.20% بنتاہے) اور جوائنٹ کنٹرول حاصل کرنے کے حوالے سے مورخہ 17 ایریل، 2024 کے پیلک آفر کے اعلان عام میں ترمیم

المرايكرو (يرائيويث) كمييند، (iii) جناب محمر فرخ، اور (iv) محتر مه فهميده امين (مشتر كه طورير" حصول كنندگان كي جانب سے يونني فوذ كمييند (دی " نارگ كمپنی") كے 277,070,908 شيئز ز (جوشيئر بولندنگ اعريت کا 23.20% بنتا ہے) اور جوائے کشرول حاصل کرنے کے حوالے ہے جاری کیا گیا تھا اور 19 اپریل، 2024 کو پرنس ایکا در اور نوائے وقت اخبارات میں شائع ہوا تھا۔ اس Corrigendum میں ترامیم کا تعلق دوسری باتوں کے ملاوہ آفر پرائس سے ہے، جولسٹیکیٹیٹر (سیسٹیشل ایکوئزیشن آف وونگ شیئر زایڈ ٹیک اوورز)ر گیلیشنز ، 2017 کی مطابقت ے27.34 پاکستانی روپے فی شیئر ہوگی۔لہذا، PAO کے مندرجہ ذیل سیکشنز میں ترمیم کر دی گئی ہے اور ک Corrigendum شن دوباره شامل میں - PAO میں دوسری تمام تفصیلات، ماسوائے ان کے جن کاذیل میں ذکر کیا گیا ہے، جول کی تو را د میں گ

	مصالف	
للوپە چىسول كى پخقىرمراحت) دلىر ياكستان مولۇگىزىي ئى اى كىلىپىش چىسورىن دەر		
) ولمريا كتان مولة نكّز بي في اى لميثة		
حصول بذرابيه شيئرز كى تعداد	فيصد	قیت فی شیتر
معابده (معابدات) کوئی شین	كونىشيى	كوتىنيى
پیک آفر 218,886,017 شیترز	18.33%	27.34 پاکستانی روپ
i) يوشق ولمراتكرو (يراتيويث) لميشتر	3004	* **
حصول بذريعه شيئرز كى تعداد	فيمد	قيت في شيتر
معاہدہ(معاہدات) کوئی شبیں	كوتىشيى	كوتىشين
پیک آفر 2,770,709	0.23%	27.34 پاکستانی روپ
ii) جابگرخ		
حصول بذربعيه شيئرزى تغداد	فيمد	تيت في شير
معاہدہ(معاہدات) کوئی نہیں	كوئى شيين	كوتىنىيى
پیک آفر 52,643,473 شیئرز	4.41%	27.34 پاکستانی روپیے
ii) محترمهٔ فهمیده امین	750 -	
حصول بذريعيه شيئرز كي تعداد	فيمد	تيت في شيتر
معاہدہ(معاہدات) کوئی شیں	كونىشيس	كوتي شيس
پیک آفر 2,770,709 شیئرز	0.23%	27.34 پاکستانی روپے
:.		
حصول بذريعيه شيئززي تغداد	فيصد	تيت في شير
معابده (معابدات) کوئی شین	كونىشيى	كوفيتين
پیک آفر 277,070,908 شیترز	23.20%	27.34 پاکستانی روپے

قطر جونیئرسکواش، ہا کستان نے جاندی کے 2 تمغے جیت کئے ببداللّٰدز مان،احمع کی ناز نے بالتر تیبا نڈ ر15 ،انڈ ر11 میںسلورمیڈ ل حاصل کیا

لاہور(سپورٹس رپورٹر) پاکستانی سکواش کھلاڑیوں سیمی فائنل ہار گئے فخر اور عزم کے ساتھ پاکستان کی نے دوجہ میں ہونے والی جونیٹر سکواش چیمیئن شپ میں سنم ائندگی کرتے ہوئے دونوں ٹوجوان کھلاڑ یوں نے ۔ چاندی کے دو تمنے اپنے نام کیے۔ دو پاکستانی نوجوان سچیمپئن شپ کے دوران کورٹ پر اپنی صلاحیتوں کا عبداللّٰدزمان اوراحم علی ْناز نے چاندی کے تمغے حاصل 👚 مظاہرہ کیا اور اپنی شاندار پر فارمنس کی وجہ سے خوب 🛚 کے کیونکہ وہ ایونٹ میں انڈر 15 اور انڈر 11 کے فائل میں جیوان حاصل کی۔ دونوں زمان بھائی کیجنڈری سابق میں ہار گئے۔ عبداللند زمان کے چیوٹے بھائی ریان سنگوائی کھاڑی تمرزمان کے پوتے ہیں جس کا مطلب زمان نے ایونٹ کی انڈر 11 کمیلیگری میں حصد لیااور ہے کھیل میں ان کی خاندانی میراث ہے۔

عامرخان کا یا کستان میں باکسنگ کی دگر گوں حالت پراظهار مایوی بچے با کسنگ سکھنے کیلئے رابطہ کرتے ہیں کیکن حکومت اورا نرظا میہ کی دلچیپی نہیں: با کسر

لا ہور (سپورٹس رپورٹر) پاکستانی نژاد برطانوی باکسر میری بیہاں اکیڈی تھی،میری جم بالکل نئی اور بہت ہی عامرخان نے ملک میں باکسنگ کے حوالے سے غیر صاف تھی، مگروہ بھی بند کردی گئی۔ایک لاکھ ڈالر سے نجیدگی پرسوالات اٹھاتے ہوئے ملک میں باکسنگ کی زائدرقم خرچ کرکے قائم کیا گیا جم بھی تناہ ہو چکا ہے۔ دگر گوں حالت پر مانیوی کا اظہار کیا ہے۔انہوں نے کہا سبجے مجھے میس کرتے ہیں کہ ہمیں ٹریننگ کرنی ہے لیکن کہ بیج باکسنگ سیکھنے کیلئے رابطہ کرتے ہیں لیکن سوال بیہے کہ پاکستان میں کیوں باکسنگ خبیں ہوتی؟ حکومت اور انتظامیہ کی عدم دلچیسی کے باعث سخت سمیں یا کستان میں ہوں کیکن اور اب انگلینڈروانہ ہور ہا ماریس ہوں۔ میں پاکستان آتا جاتا رہتا ہوں، پہلے مہوں کیونکہ میں بہت ماریس ہوں۔

يم آئيا عاوُن لايش ايندا عدى آرسينر شيب بال ورنامنك ایم اسحاق علی اینڈ کوٹو ر نامنٹ کی فاتح' چارٹیموں نے تین میچوں میں حصہ لب

كراچى (اسپورٹس ربورٹر) گزشته روز 25 اپریل کرکٹ ٹیم (اے)نے 8وکوں سے بچی جیت لیا۔ دوسرا 2024 کوسیکنڈ ایم آئی آے فاؤنڈیشن اینڈ اے ڈی میچ ایم اسحاق علی اینڈ کوایڈ دوکیشس ہمقابلہ کراچی لائیر آڑسینٹرٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقادایس کے بی سے کرکٹ ٹیم (بی) کے درمیان کھیلا گیا جس میں ایم اسحاق زید گراؤند میں کیا گیاورایم اسحاق علی ایند کواید دو کیش علی ایند کواید دو کیش کی جانب ہے۔104 رز کا کارگ دیا ٹورنامٹ کی فتح قرار پائی۔ تنج میں چارٹیوں نے تین مسلم جبکہ کراچی لائیر کر کٹ میم (بی) 36 رز سے تنج ہار میچوں میں حصیہ لیا جس میں ایم اسحاق علی ایندکو مسئم سے تیسرا اور فائل تنج میں ایم اسحاق علی ایند کو ایڈووکیٹس،ایم آئی آے فاؤنڈیشن،گراچی لائیر کرکٹ ایڈووکیٹس بمقابلہ کراچی لائیر کرکٹ ٹیم (اے) کے فیم (اے)اورکراچی لائیرکرکٹ فیم (نی) شامل تھیں۔ درمیان کھیا گیا جس میں ایم اسحاق علی اینڈ کوایڈ ووکیٹس يبلاً في ايم آئي اے فاؤنڈيشن بمقابلہ كراچى لائير كركٹ نے 6اوورز ميں 100 رنز بنائے جبكہ كراچى لائير كركٹ

شیم (اے) کے درمیان کھیلا گیا جس میں ایم آئی اے مشیم (اے)76 رز ہی بنانے میں کامیاب ہوئی اور 24 م فاؤنڈیشن کی جانب سے 60 رز بنائے جبکہ کراچی لائیر رزسے شکست کاسامنا کرنا پڑا۔

ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ2009ء کی پاکستانی

یچز میں بہت غلطہاں کیں ہوف ورلڈ کپ افخار کیساتھ چوھا پیچ فنش کرنا چاہئے تھا' سپریز برابر کرنے کی کوشش کرینگے :فخرز مان

چیف ایگزیکٹونیوزی لینڈ کرکٹ کا دورہ سیف سٹیز اتھارٹی' سکیورٹی انتظامات پراظہباراطمینان'ورلڈ کلاس سٹم پرخوشگوار جیرت لا ہور (سپورٹس ریورٹر) پاکستان اور نیوزی زیمری فوکس اورٹم روبنسن شامل ہیں، پاکستان ٹیم تھا۔عثان کو بتایا ہے اپنا نیچرل گیم کھیلے۔ پانچوال لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیاں پانچ ٹی کوسیریز برابر کرنے کیلئے آخری تی جیتنا لازی می جیت کرسیریز برابر کرنے کی کوشش کریگئے 20اعز پیشل میچوں پر مشتمل سیریز کا پانچواں اور موقا ہو می ٹیم میں ایک تبدیلی کا امکان ہے ۔ نیوزی لینڈ کرکٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر آخری میخ آج قذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا ۔فاسٹ باؤکر زمان خان کی جگہ شاہین شاہ سکاٹ وینینک نے سیف سٹیزاتھارتی کا دورہ کیا جائزگا۔ پی شام ساڑھے سات بجے شروع ہوگا۔ 🏾 آفریدی کوشامل کیا جاسکتا ہے۔ قومی کر کٹرفخرز مان 🕒 ہے۔ ایم ڈی احسن یونس، چیف ایڈمن شعیب پانچ میچوں کی سیریز کے چار ٹی ٹوٹی میچز تھلیے نے کہا ہے کہا ہم کھلاڑی نہیں تھلیتے تو فرق پڑتا سمجود، آپریشن کمانڈر شفق احمہ نے سکاٹ ویندیک با بیجے ہیں' مہمان نیوزی لینڈ کی ٹیم کو یا کتان ہے،ہم نے بہت غلطیاں کیں،شارٹ اچھانہیں کو بریفنگ دی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ کے وفد کو یخلاف5-1 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستانی ٹیم تھا۔ ہارا ہدف ورلڈ کپ ہے اس کیلئے روٹیش ایئر پورٹ، ہوٹل، سٹیڈیم روٹس کی سکیورٹی اور بابراعظم کی زیر قیادت میدان میں اتر بگی ،سکواڈ پالیسی اپنائی ہے،ورلڈ کپ بھی ضروری ہےاور کمیں فوریں کی تعیبناتی پر بریفنگ دی گئی۔جدید ' نیشن بنانا بھی ضُروری ہے۔ مجھے میٹجمنٹ 'نے بتادیا ' آرٹیفیشل انٹیلی جنس ٹیکنالوجی کے استعال اور یں میں کا دوریک میں ایراز میں میں ایراز میں کہ میں میں میں کی گروزوں کے جیاد میں اور اور کے تعاون کے متعلق بتایا گیا۔ 'فخر زمان افغا راجم مجرع خان خان 'میم شاہ ،صائم افغا کو تی مشکل کے بیٹی میڈوئی بادیا تھا۔ نیوز کی لینڈ کرکٹ کے چیف انگیزیکٹو آفیمر نے اور ب شاداب خان مثا ہیں شاہ آفریدی، اسامہ اوس سے کوئی فرت نمین پڑا، بارے اعتاد میں فرق سکیورٹی انتظامات پر اظہار اطمینان کیا۔ نیوز کی ہم نمیس مونی کینڈ کرکٹ کے یہ کی ای او جدید کیمروں سے شہر کی اسلمہ میں میں میں میں کا میں میں میں میں کی ہم نمیس میونی کینڈ کرکٹ کے دوری کی میں میں کہ کی ہم نمیس میں کی دوری کی اور اوریکٹوروں کی میں میں کی دوریکٹوروں کی دوریکٹوروں کی اور کی دوریکٹوروں کی دوریکٹوروں کی ای او جدید کیمروں سے شہر کی اس کر میں کی دوریکٹوروں کی اوریکٹوروں کی ای اوریکٹوروں کی دوریکٹوروں کر کردوروں کی دوریکٹوروں کی دوریکٹ لینڈ ٹیم کو مائکل بر یبویل لیڈ کریں کے جبکہ دیگر سی، ڈی ٹیم بھی لف ٹائم دیتی ہیں۔ عثان خان مانٹرنگ دیکھ کرمتا از ہوئے اور کہا کہ ٹیم کا بہترین اٹریننگ کررہا ہوں اور نئے طریقے اور کہلا کہ سکھ رہا

شروع کیااوراب وہ بھر پورانداز سے ہرطرح کی ٹریننگ کررہے ہیں۔ میں کوچ ٹرسیوس کیبنبریے کی نگرانی میں کھلاڑیوں میں ٹام بلنڈِل،ٹم سفرٹ،ٹن المین، اچھا کھلاڑی ہے وہ پرفارم کرئے آیا ہے، کوچز استقبال کیا گیاا ورعمہ ہاحول فراہم کیا گیا۔ نیوزی 🖟 وب ٹینگ ہے میری صلاحیت اور سکلز پر مثبت اثر مارک چینمین ، جوش کلار کسن ، ڈین فوس کر افٹ ، عثمان خان کو بلا اُن دینے ہیں ، میں زیادہ نہیں بتا تا لینڈ اور پاکستان کر کٹ کا چیشن شیئر کرتے ہیں لیڑے اجنوبی افرایقہ میں بڑی محت کررہاہوں تا کہ اپنا کول میک کو فچی ، جیز میشم ، جیک فرق ، ہین اسٹر ، کہ وہ ڈبل مائنٹر نہ ہوں۔ شروع میں بھی ڈبل ۔ آپ کا تسسم ورلڈ کلاس ہے اور اسے دیکھ کر اٹارٹ ھاصل کر سکوں۔ میرا ہوف بیرس اوکہکس میں کول میک کو پکی ، جیزفیشم ، جیکب ڈفی ، بین کسٹر ، کہ وہ ڈبل مائنڈینہ ہوں۔شروع میں بھی ڈبل ۔آپ کا منسٹم ورلڈ کلاس ہے اور اسے دیکھ تر ولیم اوروک، بین سیرز ، ایش سودهی ، ایڈ ملن ، سائنڈ ڈیوجا تاجس کی وجہ سے کارکردگی پراٹر پڑتا خوشگوار جیرت ہوئی۔ چھاپرفارم کرنااور یا کستان کیلئے اعزاز لاناہے۔

نى 20 ورلثر كب، وقارينس كالين 15 ركنى سكوا دُكا انكشاف بإبراعظم مجمد رضوان،عثمان خان، عظم خان، فتخار احد، شاداب خان، فخرز مان عمادوسيم شامل

صائم ایوب،ابراراحمه،اسامه میر،شامین آفریدی شیم شاه جمعه عامرٔ حارث روّف بھی حصه

لا ہور (سپورٹس رپورٹر) قومی ٹیم کےسابق کپتان صوان ، عثان خان ، اعظم خان ، افتخار احمد ، وقار يونس نے فی20 ورلڈ کپِ کیلیے اپنے 15 رکنی شاداب خان، فخر زمان، صائم ایوب، عماد وہیم، سكوادٌ كا انكشاف كرديا - 15 رُني سكوادُ مين نوجوان ابرار احمد، اسامه مير، شامين آ فريدي، نيم شاه، صائم ابوب بخرز مان اورعثان خان كيساته وبإبراعظم كو محمد عا مرا ورحارث رؤف شامل ہيں ۔ ٹاپ آرڈ رمیں جگہ دی۔ سپن باؤلنگ اٹیک کیساتھ آل راؤنڈر کے طور پروقاریونس نے شاداب خان،

گرین نثرٹس نے ننھے فینز کورلا دیا افتخار احمد، اورعماد وسيم کوتر جيج دي جبکه ابرار احمد اور اسامه میر کوبھی اینے مسکواڈ میں شامل کیا۔فاسٹ لا ہور (سپورٹس رپورٹر) نیوزی لینڈ کیخلاف چوتھے باؤلنگ لائن اپ میں سابق لیجنڈری کرکٹر نے ٹی20 میچ میں شکست نے شائفین کو مایوں کردیا۔ شاہین آ فریدی انسیم شاہ ،محد عامر کے علاوہ حارث شاَنقین نے فل سٹیڈیم میں جذباتی مناظر دیکھنے کو تلے رؤف كومنتخب كيا جبكه نوجوان زمان خان اور عباس ننصے فینز شکست پر دلبراشتہ نظر آئے جسکی تصاویر سوشل آ فریدی کو کم تجربے کی وجہ سے سکواڈ سے باہر رکھا۔ وقاریونس کے 15 رکی سکواڈ میں کپتان بابراغظم جھہ میڈیا پرتیزی سے وائر ل ہورہی ہیں۔

تونصل جنرل ہرمن ہارڈینا تااحمہ، فیڈریشن کےصدر آ صف عظیم کا خطاب کراچی (اسپورٹس ریورٹر) سافٹ بال فیڈریش ۔ اسپورٹسمین ایک دوسر سے کا احترام، دوئتی اور پیجہتی

آف پاکستان کیجانب سے فرسٹ ورلڈ ہیں بال سے ذریعے دنیا کوامیداوراعتاد کا پیغام دیتے ہیں سافٹ بال ڈے کے سلسلے میں 15 روزہ تقریبات ۔ صرف میڈل جیتنا ہی تھیل نہیں ہے بلکہ تھیاوں کے کا آغاز ہو گیاافتتا ہی تقریب کراچی میں ملائشیا کے ذریعے معاشر بے خصوصا سوسائٹی اور کمیوٹی کو بیجاہ توضلخانے میں منعقد ہوئی جس میں ملائیشین تونسل رکھنااصل بات ہے۔ آصف عظیم نے کہا کہیں بال جزل ہرمن ہارڈینا تا احمد وائس تونصل نور اورسافٹ بال کی انٹرنیشنل فیڈریشنز کے انظمام کے آ ذواسو کیلی ، سافیٹ بال فیڈریشن آ ف پاکستان دس سال مکمل ہونے پرڈبلیو بی ایس تی کیجا نب سے کے صدر آصف عظیم، چیئر پرس یاسمین حیدر، نائب 10 مئی کوورلڈ بیس بال ساف بال ڈے منایا جار ہا صدورتہینہ آصف، ڈاکٹر حنا جمشید، کوآ رڈینیٹر عاشی ہے چیئر برس یا سمین حیدر کا کہنا تھا کہ سافٹ بال اِیثان، سندھ سافٹ بال ایسوی ایش کے جنزل کا کھیل پاکستان کے نوجوان طبقے خصوصا خواتین سیریٹری محمہ ذیثان مرچنٹ سمیت دیگر شخصیات میں تیزی سے مقبولیت کے منازل طے کررہا ہے۔ نے شرکت کی۔اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ۔ بعد ازاں ملاَیشین قونصل جزل ہرمن ہارڈینا تا اکشین قونصل جنرل ہرمن ہارڈینا تااحمہ کا کہنا تھا کہ ۔ احمہ نے آصف عظیم کے ہمراہ کیک کا ٹا۔



فٹ بال فیڈریشن آف یا کستان کیجانب ہےفرسٹ ورلڈ بیس بال سافٹ بال ڈے کی افتتاحی تقریب میں ملائیشین قونصل جزک ہرمن ہارڈینا تااحمد کوفیڈ ریشن کےصدر آ صف عظیم سویڈیئر و بےرہے ہیں ۔



عوامي اطلاع بابت حبیب شوگر ملزلمیشڈ (دی ممینی) کی جانب سے شيئرزى والسخريدارى كيلئه مدت خريدى بندش [لط كينيز (شيئرزك والسخريداري)ريكوليشز ،2019 ك ریکولیشنز (g)10 کےمطابق (دی ریکولیشنز)]

بذريعه بذا كميني كي جانب سي شيئرزكي والس خريداري سي متعلق مدت خرید کی بندش کا اعلان کیا جارہا ہے جیسا کہ صبیب شوگر ملز کمیٹٹہ (دی مینی) کے ممبران کی جانب سے سالانہ اجلاس عام منعقدہ ۲۴ جنوری۲۰۲۴ء میں منظوری دی گئی تھی اوراس کی بابت یا قاعدہ عوامی اعلان اخبار بلزامیس ۲۶ جنوری۲۰۲۴ء کوشائع کردیا گیا تھا۔خریداری کی مدت کے دوران کمپنی نے مجموعی طور پر کمپنی کے ***، ** ، ۱۵ (پندرہ ملین)عمومی شیئرز کی خریداری/ واپس خریداری (خریدے گئے شیئرز) مکمل کی جو ۲۵ ایریل ۲۰۲۴ء کو ممپنی کے جاری کردہ اور اداشدہ شير كيپل كوا فيصدى نمائندگى كرتے ہيں۔خريدے جانے والے شیئرز نافذالعمل قوانین اور ممبران کی اجازت کے مطابق منسوخ لردیئے جائیں گے۔اس کے مطابق ریگولیشنز کے ریگولیشن ک(۲) کےمطابق مدے خریداری جمعرات ۲۵ اپریل۲۰۲۴ء کواختیام شدہ/مکمل

حسب الحكم بورد عمران امين ورياني کراچی: نمپنی سیریٹری



سینڈا یم آئیا ے فاؤنڈیشن اینڈا ہے ڈی آ ڑسینٹر ٹیپ بال کر کٹ ٹورنامنٹ میں فانتح ٹیم کا گروپ فوٹو

Discover Business Opportunities with Trade Development Authority of Pakistan (TDAP)

TRADE DELEGATION TO BELARUS

28th - 30th May, 2024

Security Deposit: 50,000 (Refundable)

Products in Focus:

Seafood (Frozen and processed), Fruits and vegetables, Rice and Sesame Seeds, Processed Food, Pink Salt & Natural Stone, Pharmaceuticals & Cosmetics Products Chemicals, Polymers and Plastics, Leather, Textiles and Apparel, Ceramics and Glass, Auto parts, Medical, Dental, Veterinary and Manicure Instruments, Cutlery, Sports

TDAP reserves the right to change the terms & conditions of participation at any stage.

Applicants may apply online at the following link: https://tdap.gov.pk/mis/

Last date for receiving applications: May 7th, 2024 Participation will be subject to the terms and conditions available on TDAP's web portal https://www.tdap.gov.pk/

Naseer Ahmad Bhatti

Assistant Manager - International Markets Development Division Phone: 0346-7903592, Email: naseer.bhatti@tdap.gov.pk

MINISTRY OF COMMERCE - GOVERNMENT OF PAKISTAN DAP Head Office, 5th Floor, Block A, Finance & Trade Centre, Shahrah-e-Faisal, Karachi Cantonment Karachi,





حصول كتندكان تصول کنندگان کے گزشتہ مالی سال کے افتقام کے بعد جاری تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں: شد بشيئر ز کي تعداو (سميني کي صورت مين) صول کنندگان کے گزشتہ مالی سال کے اختتام کے بعد جاری شد وثیئر ز کی تعداد لمريا كستان ہولڈنگزیی ٹی ای کمیٹڈ يونتى ولمرا يكرو (پرائيو بيا) لمينڈ يلك آ فركى تفصيلات ول کنندگان کی ملکیت میں پہلے ہے موجود شیئرز کی تعداد مع حصول کی ٹارگٹ ممپنی میں وونگ کے حقوق کے کسی بھی موجود وانعقاد کی تفصیلات ملكيت مين شيئر ز كا% ملكيت مين شيئرز كي تعداد بھی بتا ئیں کہ بیاوین ماکیٹ کے ذریعے خریدے گئے تھے یابات چیت 21.74% 259,535,950 ريا كتتان ہولڈنگز ے طے پانے والے سودے کے ذریعے حاصل کیے گئے۔ لى ئى اى لىيند ("WPH") یونٹی ولمرا گیرو(پرائیویٹ) 13.92% 166,153,085 بينز ("UWA") 10.12% 120,855,029 جناب محفرخ ("Farrukh" ئتر مەفېمىيدە امين 93,364,120 ("Fehmida" 53.59% 639,908,184 نار کئے تبنی میں WPH کا (LWA میں اس کے %52 اسٹیک کے ذریعے) %21.74 براہ راست شیئر ہولڈنگ انٹریٹ اور %7.23 بالواسط فرخ نارك سميني مين (UWA مين اين بالواسط استيك كي ذريعي) 10.12% براه راست شيئر ، ولذ نگ انثريت اور %1.67 بالواسطة شيئر ولدُّنگ انٹریٹ رکھتے ہیں۔ فہیدہ ٹارگئے مینی میں UWA میں اپنے بالواسط اسٹیک کے ذریعے %7.82 براہ راست شیئر ہولڈنگ انٹریٹ اور %2.79 کا بالواسط شیئر خريدبذريعه لمريا كتتان بولذتكز برائے مہر پائی POA کاضمیمہ برائے مہر یانی POA کاضیمہ یی تی ای کمیشڈ برائے مہر ہائی POA کاضمیمہ يوتثي ولمرا يكرو برائے مبریانی POA کاضمیمہ (پرائيويث)لمينثر سکی 2016 کے بعد ہے، جناب محد فرخ اورمحتر مہ قہمیدہ امین دونوں نے ٹارگ کمپنی کے شیئر ز، وقتا فو قتا، او پن مارکیٹ، ندا کراتی ڈیل مارکیٹ کے ذریعے اور رائٹ شیئرز کی سیسکر پشن کے ذریعے خریدے۔ آ فریرانس اور مالی انتظامات 3.1 آفرياس كاجواز پلک آفر کور یع حاصل کیے جانے والے شیئرز کی کندریشن کاطریقہ اشیئرز پے آرڈر/ بینک ڈرافٹ کے ذریعے نقدادا بیگی کے وش حاصل کے جائیں گ كنسد ريش ككل ماليت جوان شيئرزك لياداك جائے كى جو يلك آفر 277,070,908 shares x PKR 27.34 per share = کے دوران ٹینڈر کیے جائیں گے (مکمل قبولیت سجھتے ہوئے) -/PKR 7,575,118,625 پاکستانی روپ سات ارب، پانچ سونگھر ملین، ایک سواٹھارہ ہزار، چیسو پھیس صرف) ان ریولیشنز کے ریکولیشن 13 میں شامل طریقد وکار کی روشن میں نار کث چونکدریگولیشنز کےمطابق نارگ ممین ی سےشیئرزی مسلسل خرید وفروخت ہوتی ہے اس لیے پیک کوآ فری جانے والی قیت مندرجہ ذیل قیمتوں میں تمينى كشيترزى أفريرائس كاجواز ۔ پیلک آ فرے اعلان عام کی تاریخ سے 180 دن پہلے حصول کنندگان کی طرف سے ٹارگٹ ممپنی کے ووٹنگ شیئر ز حاصل کرنے کے لياداكرده بلندرين قبت:27.34 ياكتاني روي/شير پلک آفر کے اعلان عام کی تاریخ سے 180 دن پہلے کے عرصہ میں سکیو رشر ایکیجنی پر ٹارگٹ مینی کی weighted اوسط شیئر ارادے کے اعلان عام کی تاریخ خرید وفروخت کے 28 دن قبل کے دوران سیکیو رشیز ایجیجنی پر ٹارگٹ کمپنی کی weighted اوسط شیئر پرائس اور صرف وہی دن شار کیے جا کیں گے جن میں ٹارگٹ ممپنی کے شیئر زی خرید وفرو فت ہوئی: 23.09 پاکستانی روپے/شیئر اورکی بنیاد پر عوامی پیکش 27.34 یا کستانی رویے/شیئر برکی جارہی ہے،او بر میں سب سے زیادہ۔ مالى انتظامات ا يك ، 2015 كيكش 123 كيمطابق سكيور في انظامات كي بارك حصول كندگان في -7,575,118,625 (يا كتاني روپ سات ارب، پاچ سوچيم بلين، ايك سواشاره بزار، چيد سوچين صرف) بالت كي ايك بینک گارٹی کا انظام کیا ہے جواشینڈرڈ جارٹرد بینک (یا کستان) لمیٹڈی طرف ہے آفر کے میٹر کے حق میں جاری کی جائے گ۔ قبوليت اورتصفيه كاطريقه وكار یلک آ فرقبول کرنے کے لیےضروری ہے کہ شیئز ہولڈرز قبولیت کالیٹر (جوآ فرلیٹر کے کےساتھ منسلک ہے) ممنا سے طریقے ہے مکمل کیا ہوا ٹارگٹ کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی طرف سے پالیکش کی قبولیت کا تفصیلی طریقتہ اور د سخط شدہ بمطلوبہ دستاویزات کے ساتھ (جیبیا کہ ذیل میں بتابا گیاہے) 20 جون 2024 کوشام 5:00 بچے تک آفر کے منیخ کواس کے رجشر ڈی پید بیغی دوسری منزل، عارف حبیب سینٹر، 23 ،ایم ٹی خان روڈ پر بھیج ویں۔اس بات کو بیٹی بنائمیں کہ قبولیت کے لیشر کے ساتھ شیئرز کی تعدادسميت تماممطلو بمعلومات فراجم كردي كلي جير قبوليت كاليفراور مطلوبد ستاويزات مظرره وقت كائدر فرايم كرنے يرة فركاميخ دستاويزات كى وصولى كاتصديق نامد جارى كرے گا۔ آ فرے میٹر کو بندش کی تاریخ تک مناسب طریقے ہے کمل کیا ہوا اور دستخط شدہ قبولیت کے لیٹر مع مطلوبہ دستاہ پزات وصولی پیک آ فرقبول تبولیت کے ممل شدہ فارم جع کرانے کے بعد پیک آفر میں فروخت کرنے والے شیئر ہولڈرز کی طرف مے منسوخ نہیں کیے جاسکتے۔ تبوایت کے فارم کی نقول عارف حبیب لمیٹلہ کے دفاتر (پند ذیل میں فراہم کیا گیا ہے) یا ویب سائيف://https://www.arifhabibltd.com/ تبولیت کے لیے پلک آفرسات روزتک 14 جون 2024 کو PST و 0900 ہے تروع ہوکر 20 جون 2024 کو 1700 بیج تک ("بندش کی تاریخ) تک کھلی رہے گی۔ بند ہونے کی تاریخ پر اوقات کار کے بعد وعصول ہونے والی قبولیتیں قابل غور نہیں ہوں گی اور پاشیکش کی مدت میں قبولیت کے لیٹر کے ساتھ مندرجہ ذیل دستاویزات کا ہونا ضروری ہے: افرادى درخواست د بعدگان كے ليد: كيدورائرد قوى شاخى كار فى الله يق شده كانى، اصل شير مرتفكيش، اور مناسب طريق ا يكريكيوكى ہوئی ٹرانسفرڈیڈرمع شیئرز کو اسپلٹ کرنے کے لیے مناسب طریقے کے کمل اور وحقط شدہ اجازت نامد (صرف فزیکل شیئرز کے لیے) اوری ڈی می

رانسفر ڈسلپ جو چی ڈی می انویسٹرا کاؤنٹ سروسز کودی گئی تھی (صرف می ڈی می شیئرز کے لیے)

كار يوريك ورخواست دمندگان كے ليے: ميوريدم ايندا رفيكر آف ايسوى ايش كى تقديق شده كالى، شوفكيك آف الكار يوريش كى تقديق شده

کا بی (اور پلک کمپنیوں کے لیے، کاروبارشروع کرنے کا شوقیٹ) د تخط کنندگان کے کمپیوٹرائز ڈقومی شاختی کارڈز کی تصدیق شدہ کا پیال، بورڈ قر ارداد کی تقعد بین شده کایی جس میں افراد کوشیئر زفروخت کرنے کی اجازت دی گئی ہومج ایسے مجاز افراد کت دستخطانمونہ،اصل شیئر شوقیک اور مناسب طریقے

ے ایکزیکیوٹ کی ہوئی ٹرانسفرڈیڈزمع شیئر طوفکیٹ(s) کو اسلاف کرنے کے لیے مناسب طریقے سے ممل اور دستخط شدہ اجازت نامد (صرف نزیکل شیئرز کے لیے) ہی ڈی ٹی ٹرانسفرسلیس کی کا بی جوی ڈی ٹی انویسٹرا کاؤنٹ سرومز کوئٹ کرائی گئی تھی (صرف ٹو ٹوٹ ٹی شیئرز کے لیے)

مطلوبہ دستاویزات کے بغیرشیئر ہولڈر(s) کی طرف سے چیش کردہ قبولیت کا کوئی بھی لیٹرنامکمل اور غیر کارآ مدہونے کی بنا پرآ فر کے فیجر کی طرف سے

روخت کنند شیئر ہولڈرز کی طرف ہے چیش کر دہ شیئرز کی حصول کنندگان کی جانب ہے قبولیت اورآ فریرائس کی ادائیگی مندرجہ ذیل شرائط ہے مشروط ہے

مطلوبه دستاه یزات کے ساتھ صحیح طریقے ہے پُر کیا ہوا تھو لیت کا فارم مطنے پرآ فرکامینجر فروخت کنندہ شیئر ہولڈرز کوان شیئر زکی ادائیگی کے طور پرشیئر ہولڈرز

کے حق میں بینک ڈرافش/ بے آرڈرز کے ساتھ قبولیت کی مدت بند ہونے کے دی (10) روز کے اندر تحریری طور پر قبولیت کی اطلاع دے گا۔حصول

کنندگان کی طرف سے فروخت کنندہ کی بھی شیئر ،ولڈر سے خرید کعدہ شیئر زیر کی بھی وجہ یاسب سے کوئی مارک اپ،سرچارج یا دوسری اضافی رقم قابل

شیئرزی ادائیگی فارن ایج چیخ ریگولیشنز ایک، 1947 اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فارن ایج چیخ مینوکل کے کس سیکشن کے مناہ

مطلوبه وستاویزات کے ساتھ مناسب طور پر کلمل اور دستخطاشدہ قبولیت کا لیٹر بندش کی تاریخ پر یااس سے پہلے آفر کے فیجر تک پانچ

كميشن ياكسي دوسري مجاز اقفار في كويبلك آ فرك كسي بھي دفعه بركوئي اعتراض نه ہو؟

پیش کردہ شیئرز ٹارگٹ ممپنی کی طرف سے منظور شدہ ہوں ؛ اور

حصول کنندگان ایکٹ کی دفعات کےمطابق پیلک آ فرواپس نہ لیس۔

یونی فو ڈلمیٹڈ کےشیئر ہولڈرز کوقبولیت کی مدت کے آغاز کی اطلاع دینے کا اعلان عام

بذريعه بذامطلع کياجا تاہے که عيدالانفخ کی چیٹيوں کے پیش نظر بيلک آفر کي ټوليت کی مدت 14 جون،2024 کوڅروځ اور24 جون،2024 کو(بشمول دونوں دن)ختم ہوگی۔اس ضمن میں متعلقه. ہدایات اور قبولیت کے لیٹرز کے ساتھ آفر لیٹر زتمام مستحق شیئر ہولڈرز کوارسال کروئے گئے ہیں۔اس کے ملاوہ ،قبولیت کالیٹر عارف حبیب کمپیٹر (آفر کےمپنجر) کی ویب سائیٹ سے بھی داؤن لوڈ کیا

الیے تمام شیئر ہولڈرز کوجو یوخی فوڈزلمیٹڑ کے اپنے شیئرز ٹینڈر کرنے کے خواہش مند ہیں، دنوت دی جاتی ہے کہ وہ 24 جون 2024 کوشام 5:00 کے تک پااس سے پہلے مندرجہ ذیل تفسیلات

سكتاب: https://arifhabibltd.com/api/research/open?path=177/66617cf7a7241003c6e8b757.pdf

عارف حيب لميثثر

عارف حبيب سينثر، دوسري منزل، 23 ايم تي خان رود ، كراجي

برائے توجہ: حمز ہ رحمان-الیوسی ایٹ،انویسٹمنٹ بینکنگ

+92 321 2237 069: كان

استعال کرتے ہوئے -/27.34 ماکتانی رویے فی شیئر کی قیت برایے شیئر ز ٹینڈ رکریں:

ٹرانز یکشن ریزن کوڑ: UIN # WEHL000002568UAE

سى ۋى يىشراكتى آئى ۋى: 06452 سى ۋى تىسب ا كاۇنىڭ نمېر: 178153 يوآ كَي الن: 0111429

> برائے انٹراا کاؤنٹ - A021 برائے انٹرا کاؤنٹ - P015

(i) ولمريا كتان بولدُنگز .Pte لميثدُ

(ii) يونني ولمرا يكرو (يرائيويث) لميثلة

28 مائيو يولس روڙ ، ولمرانثر پيشنل ، سنگايور 138568 _

یونیٔ ٹاور، 8C ، بیای تا پچالیس،شاہراہ فیصل، کراجی

مكان نمبر 115/2، اسٹریٹ 29، خیابان محافظ، فیز ۷۱، ڈی ان ایکا اے، كراچی

مكان نمبر R-92، خيابان رضوان، دُى انْ الله الله VII، كرايي

حصول كنندگان:

(iii) جناب محمر فرخ

(iv) محتر مەفېمىدەامىن

آفر کے پینجر

سى ڈى تى اکاؤنٹ ٹائٹل: (Manager to the Offer (Unity Foods Limited

بحواله، بیزی فو و فو فرالمینٹر کے 277,070,908 شیئر ز (جشیئر بولڈنگ انٹریٹ کا 23.20 بنتا ہے) اور مشتر کہ کنٹرول حاصل کرنے کی پیشکش کے سلسلہ میں (i) ولمریا کستان بولڈنگ Pte

لميندُ (ii) يونيُّ ولمرا يكرو(يرائيويٹ)لميندُ (iii) جناب محمفرخ ؛ اور(iv) محتر مهنه يدوامين (مشتر كه طورير" حصول كنندگان") كي طرف سے بالترتيب 19 ابريل، 2024 اور 17 ابريل،

2024 کوبزنس ریکارڈر (انگش) اورنوائے وقت (اردو)اخبارات میں شائع ہونے والی پیلک آفر کا اعلان عام ہیں اضافہ کے ساتھ پڑھاجائے۔

PUBLIC ANNOUNCEMENT INFORMING THE SHAREHOLDERS OF UNITY FOODS LIMITED OF THE COMMENCEMENT OF ACCEPTANCE PERIOD This is with reference to the Public Announcement of Public Offer read in conjunction with the Corrigendum to the Public Announcement of Public Offer made by (i) Wilmar Pakistan Holdings Pte.

Ltd.; (ii) Unity Wilmar Agro (Private) Limited; (iii) Mr. Muhammad Farrukh; and (iv) Ms. Fehmida Amin (collectively the "Acquirers") in Business Recorder (English) and Nawa-e-Waqt (Urdu) newspapers on April 19, 2024 and April 27, 2024, respectively, in relation to the offer to acquire up to 277,070,908

shares (constituting 23.20% of the shareholding interest) and joint control of Unity Foods Limited. It is hereby informed that in lieu of the upcoming Eid al-Adha holidays, the acceptance period for the Public Offer will commence from June 14, 2024 and will end on June 24, 2024 (both days inclusive). In this regard. Offer Letters, along with relevant instructions and Letters of Acceptance, have been

dispatched to all entitled shareholders. Moreover, the Letter of Acceptance can also be downloaded

All shareholders who intend to tender their shares of Unity Foods Limited, are invited to tender their shares at PKR 27.34/- per share to the Manager to the Offer, using the following details, on or before

https://arifhabibltd.com/api/research/open?path=177/66617cf7a7241003c6e8b757.pdf

CDC Participant ID: 06452 CDC Sub Account No: 178153 UIN: 0111429 Transaction Reason Code: UIN # WFHI 000002568UAF For Intra Account – A021 For Inter Account - P015 Acquirers:

28 Biopolis Road, Wilmar International, Singapore 138568.

(iii) Mr. Muhammad Farrukh

(i) Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd.

5:00 pm on June 24, 2024:

(ii) Unity Wilmar Agro (Private) Limited

from the website of Arif Habib Limited (the Manager to the Offer):

CDC Account Title: Manager to the Offer (Unity Foods Limited)

Unity Tower, 8C, Block 6, PECHS, Shahrah e Faisal, Karachi.

House no. 115/2, Street 29, Khayaban-e-Muhafiz, Phase 6, DHA, Karachi.

(iv) Ms. Fehmida Amin

House no. R-92, Khayaban-e-Rizwan, DHA, Phase VII, Karachi.

Manager to the Offer Arif Habib Limited



Arif Habib Centre, 2nd Floor, 23, M.T. Khan Road, Karachi